


شرح مائتہ عامل کی مکمل اردو جامع ترکیب



تالیف

ملاحفظ الرحمن حنفی

مدرسہ جامعہ مخزن العلوم خان پور

کتابخانہ مجیدیہ بین روڈ گریٹ ملتان

فون: 543841

جملہ حقوق دائمی بحق ناشر باضابطہ محفوظ ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وما توفیق الا باللہ

# زجاجیۃ العوامل فی تراکیب شرح مائتہ عامل

تالیف

ملا حفظ الرحمن حنفی

مدرس جامعہ مخزن العلوم خان پور

کتب خانہ مجیدیہ ملتان 543841

## بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان من رفع السماء بغير عمد و نصب الجبال بعد دحوى الارض على ماء غير جمد وله الحمد على ما آلهم الانسان طرق التراكيب والا عراب والبناء والصلوة والسلام على من بعثه الله لاشاعة كلمة التوحيد ولا معآء الكفر والشرك والضلال وجعل نية الانسان معيارا لقبول الاعمال الصالحات وعلى آله الذين شادوا الدين و انتقوا عن الشرك والكفر فقد نجوا و انجوا من تبعهم وعلى اصحابه الذين هم كالنجوم من اقتدى بهم فقد اهتدى و بعد فيقول العبد الفقير الى رحمة الله الراجى للغفران ملا حفظ الرحمن بن ملا رحيم بخش بن ملا محمد صادق خان پورى نسبا و المسلم الحنيفى دينا لما كان لعلم النحو دخل فى البلاغة التى هى سبب لمعرفة اعجاز القرآن وهو منهج لتصديق النبى ﷺ بجميع ما جاء به و هو سبيل للفوز بجميع السعادات كتبت بعون الله تعالى و تائيده عدة اوراق بعد الفراغ من تحصيل قواعد هذا الفن فالتمس منى لبعض اخوان الاسلام ان اكتب ثانيا هذه الاوراق مع تغير و تبديل و تصحيح بقدر الطاقة البشرية فشرعت فى مرامهم ليحصل لهم النفع بها اى لبعض المبتدئين فى كل زمان و سميته زجاجة العوامل فى تراكيب شرح مائة عامل وعلى الله توكلت و اليه انيب

العبد الفقير الى رحمة الله حفظ الرحمن

## بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان من رفع السماء بغير عمد و نصب الجبال بعد دحوى الارض على ماء غير  
جمد وله الحمد على ما اللهم الانسان طرق التراكيب والا عراب والبناء والصلوة و  
السلام على من بعثه الله لاشاعة كلمة التوحيد و لا محآء الكفر والشرك والضلال  
و جعل نية الانسان معيار القبول الاعمال الصالحات و على آله الدين شادوا الدين و  
اتقوا عن الشرك و الكفر فقد نجوا و انجوا من تبعهم و على اصحابه الذين هم  
كالنجوم من اقتدى بهم فقد اهتدى و بعد فيقول العبد الفقير الى رحمة الله الراجي  
للغفران حفظ الرحمن بن رقيم بخش بن محمد صادق خان فوري نسبا و المسلم  
الحنيفي دينا لما كان لعلم النحو دخل في البلاغة التي هي سبب لمعرفة اعجاز  
القرآن و هو منهج لتصديق النبي ﷺ بجميع ما جاء به و هو سبيل للفوز بجميع  
السعادات كتبت بعون الله تعالى و تائيده عدة اوراق بعد الفراغ من تحصيل قواعد  
هذا الفن فالتمس منى لبعض اخوان الاسلام ان اكتب ثانيا هذه الاوراق مع تغير و  
تبديل و تصحيح بقدر الطاقة البشرية فشرعت في مراهم ليحصل لهم النفع بها اى  
لبعض المبتدئين فى كل زمان و سميته زجاجة العوامل فى تراكيب شرح مائة  
عامل و على الله توكلت و اليه انيب

العبد الفقير الى رحمة الله حفظ الرحمن

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم:

ترجمہ - پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان راندے ہوئے سے۔

ترکیب - (اعوذ) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" قائل (ب) حرف جار (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (من) حرف جار (الشیطان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" موصوف (الرجیم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (اعوذ) فعل کے (اعوذ) فعل اپنے فاعل اور دونوں مطعونوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمہ - شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

ترکیب - (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً موصوف (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" صفت اول (الرجیم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" صفت ثانی ہے موصوف کی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق (الشرع) فعل محذوف کے (الشرع) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" قائل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(دوسرا احتمال) بسم اللہ اعنی الرحمن اعنی الرحیم

ترکیب - (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (الشرع) فعل محذوف کے (الشرع) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ مرفوع لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" قائل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(اعنی) فعل مضارع معلوم واحد تکلم معتل یائی مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیرا فعل (انا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا فاعل (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح منصوب لفظا مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(اعنی) فعل مضارع معلوم واحد تکلم معتل یائی مجرد از شمار بارزہ مرفوع تقدیرا فعل (انا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا فاعل (الرحیم) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح منصوب لفظا مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(تیسرا احتمال) بسم اللہ هو الرحمن هو الرحیم

ترکیب۔ (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصوب صحیح مجرور لفظا مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مجرور لفظا مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مشدّد متعلق ہے (الشرع) فعل محذوف کے (الشرع) فعل مضارع معلوم واحد تکلم صحیح مجرد از شمار بارزہ مرفوع لفظا فعل (انا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(حو) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلا مبتداء (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مرفوع لفظا خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(حو) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلا مبتداء (الرحیم) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مرفوع لفظا خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(چوتھا احتمال) بسم اللہ اعنی الرحمن هو الرحیم

ترکیب۔ (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصوب صحیح مجرور لفظا مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مجرور لفظا مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مشدّد متعلق ہے (الشرع) فعل محذوف کے (الشرع) فعل مضارع معلوم واحد تکلم صحیح مجرد از شمار بارزہ مرفوع لفظا فعل (انا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(اعنی) فعل مضارع معلوم واحد تکلم معتل یائی مجرد از شمار بارزہ مرفوع تقدیرا فعل (انا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا فاعل (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح منصوب لفظا مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(حو) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلا مبتداء (الرحیم) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مرفوع لفظا خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(پانچواں احتمال) بسم اللہ هو الرحمن اعنی الرحیم

ترکیب۔ (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصوب صحیح مجرور لفظا مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مجرور لفظا مضاف

الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (اشرع) فعل محذوف کے (اشرع) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضائر بارزہ مرفوع لفظا فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(هو) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع محلا مبتداء (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظا خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(اعنی) فعل مضارع معلوم واحد متکلم معتل یائی مجرور از ضائر بارزہ مرفوع تقدیرا فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا فاعل (الرحیم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظا مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(چنانچہ احتمال) بسم اللہ الرحمن اعنی الرحیم

ترکیب (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظا مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظا موصوف (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظا صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظا مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (اشرع) فعل محذوف کے (اشرع) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضائر بارزہ مرفوع لفظا فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(اعنی) فعل مضارع معلوم واحد متکلم معتل یائی مجرور از ضائر بارزہ مرفوع تقدیرا فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا فاعل (الرحیم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظا مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(ساواں احتمال) بسم اللہ الرحمن هو الرحیم

ترکیب (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظا مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظا موصوف (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظا صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظا مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (اشرع) فعل محذوف کے (اشرع) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضائر بارزہ مرفوع لفظا فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(هو) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع محلا مبتداء (الرحیم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظا خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(آشواں احتمال) بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترکیب (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظا مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظا

موصوف (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً صفت اول (الرحیم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً صفت ثانی ہے موصوف کی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (حبر کا) اسم قائل مقدر کے (حبر کا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً اسم قائل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع عملاً قائل ہے اسم قائل کا اسم قائل اپنے قائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً مل ہے (من فاعل اشرع) فعل محذوف (لا اشرع) فعل مضارع مطوم واحد کلم صحیح مجرور از حلاز بارزہ مرفوع لفظاً فعل (انا) ضمیر درو مستقر مرفوع عملاً زوال محل ہے مل مقدم کا فاعل اپنے مل سے مل کر مرفوع عملاً قائل ہے اشرع فعل کا اشرع فعل اپنے قائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(نواں احتمال) بسم اللہ هو الرحمن الرحیم

ترکیب (ب) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (اشرع) فعل محذوف کے (اشرع) فعل مضارع مطوم واحد کلم صحیح مجرور از حلاز بارزہ مرفوع لفظاً فعل (انا) ضمیر درو مستقر مرفوع عملاً قائل ہے فعل کا فعل اپنے قائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع عملاً حتماً (الرحمن) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً خبر اول (الرحیم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً خبر ثانی ہے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(دسواں احتمال) بسم اللہ هو الرحمن الرحیم

یہ احتمال ممنوع ہے کیونکہ (الرحیم) (اللہ) کی صفت بن رہی ہے صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ ممنوع ہے اس لئے یہ احتمال درست نہیں

(گیارہواں احتمال) بسم اللہ اعنی الرحمن الرحیم

یہ احتمال بھی ممنوع ہے کیونکہ (الرحیم) (اللہ) کی صفت بن رہی ہے صفت اور موصوف کے درمیان فاصلہ ممنوع ہے اس لئے یہ احتمال درست نہیں

ضابطہ لان النعت التابع اشد لرباطا بالمنعوت فلا يؤخر عن المقطوع ولان فی الاتباع بعد القطع رجوعاً الى الشئ بعد الاصراف عنه فمنع لذلك لا اعتراض الجملة بين الصفة والموصوف لوقوعه في نحو وانه لقسم لو تعلمون عظیم



الحمد لله على نعمائه الشاملة والانه الكاملة

ترجمہ - تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ثابت ہیں اسکی ایسی نعمتوں پر جو کہ شامل ہیں اور اسکی ایسی نعمتوں پر جو کہ کمال ہیں۔

ترکیب - (الحمد) معرف باللام استفراقی اسم مفرد منصرف صحیح رفع ضمہ لفظی کے ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" ابتدا (لام) حرف جار (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل مقدر کے (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (انعماء) اسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" موصوف (الشاملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الاء) جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" موصوف (الكاملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل کے (ثابت) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں معطوفوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

والصلوة على سيد الانبياء محمد المصطفى و على آله المجتبي

ترجمہ - اور رحمت نازل ہو تمام پیغمبروں کے سردار پر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سرداری کیلئے برگزیدہ فرمایا اور ان کی اولاد پر جو کہ بزرگ اور چنیدہ ہیں۔

ترکیب: (واو) حرف عاطفہ (الصلوة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (علی) حرف جار (سید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الانبياء) معرف باللام جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" بدل: (محمد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً"

موصوف (المصطفیٰ) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسو کے مجرور تقدیر "اسم مفعول (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "بدل الکل ہے مبطل منہ کا مبطل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (علی) حرف جار (آل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "موصوف (المجنینی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسو کے مجرور تقدیر "اسم مفعول (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ ہے معطوف علیہ اپنے موصوف سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (نازلۃ) اسم فاعل مقدر کے (نازلۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (می) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔"

اعلم ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبدالقاہر بن عبدالرحمن الجرجانی  
مائة عامل لفظیة و معنویة

- ترجمہ: جان لے تو کہ تحقیق عوامل علم نحو میں موافق اس کے کہ جمع کیا اور اس کو شیخ نے جو پیشوا ہے بہترین ہے علماء ملوک کا نام اس کا عبدالقاہر ہے بیٹا ہے عبدالرحمن کا رہنے والا جرجان کا عوامل سو ہیں لفظی اور معنوی  
ترکیب - (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر جنی بر سکون (انت) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا "فاعل (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (العوامل) معرف باللام اسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً "ذوالجل (نی) حرف جار (انتم) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (مستبر) اسم فاعل مقدر کے (مستبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم مفعول (می) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "حل اول ہے (العوامل) ذوالجل کا (علی) حرف جار (ما) اسم موصول (الف) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا فعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ (الشیخ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (اللام) معرف باللام عمد خارجی اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً"

صفت اول (افضل) اسم مفرد غیر منصرف بسبب و صفت اور وزن فعل کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (علماء) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف (الانام) معرف باللام عمد خارجی اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (علماء) مضاف کا (علماء) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (افضل) مضاف کا (افضل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً صفت ثانی ہے موصوف کی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مرفوع لفظاً مبدل منہ (عبد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (علماء) معرف باللام عمد خارجی اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً موصوف (ابن) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (عبد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف (الرحمن) معرف باللام عمد خارجی اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (عبد) مضاف کا (عبد) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (ابن) مضاف کا (ابن) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً صفت اول (المجرطانی) معرف باللام عمد خارجی اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ثانی ہے موصوف کی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مرفوع لفظاً بدل الکل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے (الف) فعل کا (الف) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ خلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (مبنیة) اسم فاعل مقدر کے (مبنیة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً اسم فاعل (حی) ضمیر درو متستر مرفوع محلاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً حال متداخلہ ہے (العوال) زوالحلل کا (العوال) زوالحلل اپنے دونوں حالوں سے مل کر منصوب لفظاً اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (مائة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً اسم عدد بسم میتر مضاف (عال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مبدل منہ (لفظیة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطف (معنویة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ تمیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی

(دوسرا احتمال) - (مائة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً

اسم عدد مجہم میز مضاف (عال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ تیز ہے میز مضاف کی میز مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مرفوع لفظاً مبدل منہ (لفظیۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطف (معنویہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر متلاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً مفعول بہ ہے (اعلم) فعل کا (اعلم) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

سقی اللہ ثراہ

ترجمہ - آرام دے اسکو اللہ تعالیٰ قبر مبارک میں۔

ترکیب: (سقی) فعل ماضی معلوم واحد ذکر عتاب متصل الفی مرفوع محلاً فعل (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل (سقی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے منصوب تقدیراً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب تقدیراً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

وجعل الجنة منواه

ترجمہ - اور بنائے اللہ تعالیٰ ٹھکانا اس کا تمام جنت کو۔

ترکیب: (واو) حرف عطف (جعل) فعل ماضی معلوم واحد ذکر عتاب جہی بفتح مرفوع محلاً فعل از افعال نصیبیر (عو) ضمیر درو متثر مرفوع محلاً فاعل (الجنة) معرف باللام استغراقی اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً مفعول بہ اول (مثنوی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے منصوب تقدیراً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب تقدیراً مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

لفظیۃ و معنویۃ

ترجمہ - یہ لفظی اور معنوی عامل ہیں۔

ترکیب: (لفظیۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف علیہ

(واو) حرف عطف (معنویہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے (حی) مبتدا محذوف کی (حی) ضمیر مرفوع متصل کی مرفوع محلاً "بتدا ہے خبر کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### (دوسرا احتمال) لفظیہ

- ترجمہ بعض ان میں لفظی عامل ہیں۔

ترکیب - (لفظیہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً خبر ہے (بعضہا) مبتدا محذوف کی (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "بتدا ہے خبر مقدم کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### و معنویہ

- (ترجمہ) اور بعض ان میں معنوی عامل ہیں۔

ترکیب: (واو) حرف عطف (معنویہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً خبر ہے (عضا) مبتدا محذوف کی (بعضہا) مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### (تیسرا احتمال) منہا لفظیہ

- (ترجمہ) کچھ ان میں لفظی عامل ہیں۔

ترکیب: (من) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مشتق مرفوع محلاً "خبر مقدم (لفظیہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "بتدا ہے خبر مقدم کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### و منہا معنویہ

- (ترجمہ) اور ان میں کچھ معنوی عامل ہیں۔

ترکیب - (واو) حرف عطف (من) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مشتق مرفوع محلاً "خبر مقدم (معنویہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "بتدا ہے خبر مقدم کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### چوتھا احتمال ( لفظیۃ و معنویۃ )

- (ترجمہ) مراد لیتا ہوں میں لفظی اور معنوی عاملوں کو۔

ترکیب - ( لفظیۃ ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف علیہ ( واو ) حرف علقہ ( معنویۃ ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے (اعنی) فعل مہذوف کا (اعنی) فعل مضارع معلوم واحد شکلم مثل یائی مجرد از حناز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً " فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً " فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

### فالفظیۃ منها علی ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ

- (ترجمہ) پھر لفظی عامل ان میں دو قسم بر ہیں سماعی اور قیاسی

ترکیب - (نا) حرف غصیلہ (اللفظیۃ) معرف بالاسم اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "ذوالجلل (من) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً " مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً " حال ہے ذوالجلل کا ذوالجلل اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً " مبتدا (علی) حرف جار (ضربین) اسم تشبیہہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً " مہبل مند ( سماعیۃ ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً " معطوف علیہ (واو) حرف علقہ (قیاسیۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً " معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً " بدل ہے مہبل مند کا مہبل مند اپنے بدل سے مل کر مجرور لفظاً " مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً " خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### (دوسرا احتمال) - سماعیۃ و قیاسیۃ

- (ترجمہ) مراد لیتا ہوں میں سماعی اور قیاسی عاملوں کو۔

ترکیب - (سماعیۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً " معطوف علیہ (واو) حرف علقہ (قیاسیۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً " معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً " مفعول بہ ہے (اعنی) فعل مقدر کا (اعنی) فعل مضارع معلوم واحد شکلم مثل یائی مجرد از حناز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً " فعل (انا) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً " فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(تیزا اختل) - سماعیة و قیاسیة

(ترجمہ) یہ سائی اور قیاسی عامل ہیں۔

ترکیب - (سماعیة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (ولو) حرف عطفہ (قیاسیة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (می) مبتدا محذوف کی (می) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(چوتھا اختل) - سماعیة

(ترجمہ) بعض ان میں سائی عامل ہیں۔

ترکیب - (سماعیة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے (حضا) مبتدا محذوف کی (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتدا ہے خبر کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقیاسیة

(ترجمہ) اور بعض ان میں قیاسی عامل ہیں۔

ترکیب - (ولو) حرف عطفہ (قیاسیة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے (حضا) مبتدا محذوف کی (حضا) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(پانچواں اختل) - منها سماعیة

(ترجمہ) کچھ ان میں سائی عامل ہیں۔

ترکیب - (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر مقدم (سماعیة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتدا ہے خبر مقدم کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ومنها قیاسیة

(ترجمہ) اور کچھ ان میں قیاسی عامل ہیں۔

ترکیب - (واو) حرف عطف (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع عملاً" خبر مقدم (قیاسیہ) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" ابتدا ہے خبر مقدم کا ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

فالسماعیۃ منها احد و تسعون عاملاً  
(ترجمہ) پھر ان میں ساتی اٹھوے عال ہیں۔

ترکیب - (ف) حرف ضمیہ (السماعیۃ) معرف باللام اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" ذوالحل (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب عملاً" حل ہے ذوالحل کا ذوالحل اپنے حل سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتدا (احد) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عطف (تسعون) از مطقات جمع ذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل کسوف کے مرفوع لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم عدد مجہم ممیز طلب کرتا ہے تیز مرفوع منصوب کو (عملاً) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے نصب ساتھ لفظاً" تیز ہے ممیز کی ممیز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

والقیاسیۃ منها سبعة عوامل

(ترجمہ) اور قیاسی عال ان میں سات (۷) ہیں۔

ترکیب - (واو) حرف عطف (القیاسیۃ) معرف باللام اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" ذوالحل (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب عملاً" حل ہے ذوالحل کا ذوالحل اپنے حل سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتدا (سبعة) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم عدد مجہم ممیز طلب کرتا ہے تیز مجموع مجرور کو (عوامل) غیر منصرف جمع متنی المجرور قائم مقام دو سیوں کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مجرور حکماً تیز ہے ممیز کی ممیز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

والعنویۃ منها عدلن

(ترجمہ) اور معنوی عال ان میں دو (۲) ہیں۔

ترکیب - (واو) حرف عطف (المعنویۃ) معرف باللام اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" ذوالحل (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور



سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا" حل ہے ذوالجلل کا ذوالجلل اپنے حل سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتدا (عدوان) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

و تنوع السماعیة منها علی ثلثة عشر نوعاً

(ترجمہ) اور منقسم ہوتے ہیں ان میں سماعی عامل تیرہ (۱۳) قسموں پر۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (تنوع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بازوہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (السماعیة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" ذوالجلل (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا" حل ہے ذوالجلل کا ذوالجلل اپنے حل سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (علی) حرف جار (ثلثة عشر) مرکب بتائی ہر دو جز مثنیٰ بر فتح مجرور محلا" اسم عدد مبہم ممیز طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (نوعاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" تمیز ہے ممیز کی ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

## النوع الاول

النوع الاول حروف تجر الاسم

(ترجمہ) پہلی قسم ان حروف کی ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں۔

ترکیب - (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتدا (حروف) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً موصوف (تجر) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بازوہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (می) ضمیر درر مستتر مرفوع محلا" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

فقط = فا حرف جار ایہ قطع . معنی جبکہ اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

اذا جررت بہا فحسبک الجبر (ترجمہ) جب جردے تو اس کے ساتھ توکلنی تجھے ج

ترکیب نمبر ۱۔ (اذا) شرطیہ (جررت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع عملاً "فاعل (ب) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف نحو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (فا) حرف جزائیہ - (حسب) مصدر متعدی رفع ساتھ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ک) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً "مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے مصدر متعدی مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتدا (الجبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمیر لفظی کے نصب ساتھ لفظی کے جڑ ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً "خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی جڑ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔  
(نقطہ) فا حرف جزائیہ قطع . معنی جبکہ اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

اذا جررت بہا الالام فحسبک الالام (ترجمہ) جب جردے تو اسکے ساتھ اسم کو توکلنی تجھ کو اسم

ترکیب نمبر ۲۔ (اذا) شرطیہ (جررت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع عملاً "فاعل (ب) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف نحو متعلق ہے فعل کے (الالام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمیر لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی۔ (فا) حرف جزائیہ (حسب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمیر لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ک) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً "مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتدا (الالام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمیر لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً "خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء سے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

فقط = فا حرف جزائیہ قطع . معنی کیفیک اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

اذا جررت بہا فیکفیک الجبر جب جردے تو اس کو توکلنی ہے تجھے

ترکیب نمبر ۳۔ (اذا) شرطیہ (جررت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع عملاً "فاعل (ب) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف نحو متعلق فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (فا) حرف جزائیہ (کیفیک) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب متصل یا کی رفع ساتھ تقدیر ضمیر کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کے مرفوع تقدیر "فعل (ک) ضمیر منصوب متصل کی منصوب عملاً "مفعول بہ (الجبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمیر لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء سے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

**فقط = فا** حرف جزائیہ (قط) . معنی (یکفیک) اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

اذا جررت بہا فیکفیک الجبر

(ترجمہ) جب جروے تو اس کو تو جر کلنی ہے تجھے

ترکیب نمبر ۳۔ (اذا) شرطیہ (جررت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی برسکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل (ب) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (یکفنی) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب معتل یائی رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کے مرفوع تقدیر "فعل (ک) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" مفعول بہ (الجر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء سے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

**فقط = ف** حرف جزائیہ قط . معنی (یکفیک) اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

اذا جررت بہا الاسم فیکفیک عن غیر الاسم

(ترجمہ)۔ جب جروے تو اس کے ساتھ اسم کو تو کلنی ہے تجھے غیر اسم سے

ترکیب نمبر ۴۔ (اذا) شرطیہ (جررت) فعل ماضی معلوم معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی برسکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل (ب) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے منصوب لفظا" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (یکفنی) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب معتل یائی رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیر "فعل (ک) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" مفعول بہ (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظا" فاعل (عن) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظا" مضاف (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

- فقط = فا حرف جزائیہ فقط . معنی (انتہ) اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

اذا جررت بها فانتہ عن غیر الجرح

(ترجمہ) جب جردے تو اس کے ساتھ تو ٹھہر جا غیر جرح سے

ترکیب نمبر ۵ - (اذا) شرطیہ (جررت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل (ب) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (انتہ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (عن) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرح ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الجر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع کے ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرح ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

وتسمی حروفاً جارة

(ترجمہ) اور یہ حروف جارہ کے نام سے موسوم ہیں۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (تسمی) فعل مضارع مجہول واحد مونث غائب معتل الفی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیر "فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (حروفاً) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرح ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "موصوفہ جاراً" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرح ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

وهی سبعة عشر حرفاً

(ترجمہ) اور یہ سترہ (۱۷) حرف ہیں۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (می) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلا "بتدا (سبعة عشر) مرکب بتائی دونوں جز مبنی بر فتح مرفوع محلا" اسم عدد مجہم میئز طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (حرفاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرح ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تمیز ہے میئز اپنی تمیز سے مل کر مرفوع محلا" خبر ہے بتدا کی بتدا اپنی خبر

سے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### الباء للالصاق وللاستعانة

(ترجمہ) باء آتی ہے الصاق کے معنی کیلئے اور باء مد لینے کے لئے آتی ہے

ترکیب (الباء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مبتدا (لام) حرف جار (الاصاق) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (الاستعانة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وهو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقة واما مجازاً

(ترجمہ) اور وہ ایک شی کا دوسری شی سے ملنا ہے خواہ حقیقی ہو یا بطور مجاز ہو۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلاً مبتدا (اتصال) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً بمسم میتر مضاف (الشیء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل (ب) حرف جار (الشیء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے مصدر کے (اما) حرف تفصیل (حقیقة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف زائدہ (اما) حرف عاطفہ (مجازاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً تمیز ہے مصدر بمسم میتر کی مصدر بمسم میتر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور اپنی تمیز اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### نحویہ داء

(ترجمہ) جیسے بیماری اس کے ساتھ آئی۔

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع یا منصوب لفظاً مضاف (ب) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور طرف مستقر مرفوع محلاً خبر مقدم (داء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مبتدا

ہے خبرمقدم کا ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا محذوف مثلاً کی (مثلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتدا ہے خبرمقدم کا ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(نحو) حالت نصب میں (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (نحو) فعل محذوف کا (نحو) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے (اعنی) فعل محذوف کا (اعنی) فعل مضارع معلوم واحد متکلم معتل یائی مجرد از ضماہ بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً" فعل (ا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئندہ (نحو) کی صرف حالت رفعی بیان کی جائیگی۔

نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منه زید

(ترجمہ) جیسے گزارا میں زید کے ساتھ یعنی میرا گزارنا ایسے مقام سے ہوا کہ وہاں سے زید قریب تھا یا زید کا مکان قریب تھا۔  
 ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مررت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل (ب) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (التصق) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا" فعل (مروری) غیر جمع مذکر سالم مضاف طرف (ی) متکلم کے مرفوع تقدیراً" فاعل (ب) حرف جار (مکان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (یقرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماہ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (من) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (التصق) فعل کے (التصق) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا محذوف (مثلاً) کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔



سے مل کر معطوف سوس (دو) حرف عطفہ (الزیادۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف سلاح ہے (التعلیل) معطوف علیہ کا (التعلیل) معطوف علیہ اپنے تمام ساتوں معطوفوں سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" خبر ہے (کون) فعل ناقص کی (کون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو قولہ تعالیٰ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بسبب بنانا تمہارا بچنے کو معبود

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالخل (تعالیٰ) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مفعول الفی بنی بر فتح تقدیراً" مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حل ہے ذوالخل کا ذوالخل اپنے حل سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (ان) حرف از حرف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (کم) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (ظلمتم) فعل ماضی معلوم جمع ذکر مخاطب جنی بر سکون ساتھ ضمیر بارز (تم) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (انفس) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ (ب) حرف جار (اتخاذ) مصدر متعدی بدو مفعول رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل (العجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ قول (الہما) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" مفعول بہ ثانی محذوف ہے (اتخاذ) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی جز سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو اشتریت الفرس بسر جہ

(ترجمہ) جیسے میں نے گھوڑا خریدنا مع ذہن کے

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع



لفظاً" مضاف (اشتریت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (الفرس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (ب) حرف جار (سرج) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعالی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الفی مبنی بر فتح تقدیراً" مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (ذهب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (اللہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل (ب) حرف جار (نور) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (هم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

و نحو ذهبت بزيد اى اذہبتہ

(ترجمہ) جیسے ذہبت بزيد یعنی لے گیا میں زید کو۔ یعنی لے گیا میں اسکو

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ذہبت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (زيد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر

ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (اذہبت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو اشتریت العبد بالفرس

(ترجمہ) جیسے کہ خریدا میں نے غلام بمقابلہ گھوڑے کے۔

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (اشتریت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (العبد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (ب) حرف جار (الفرس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو بالله لا فعلن کذا

(ترجمہ) جیسے قسم کھاتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی ضرور ضرور ایسا کو نکلا

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ب) حرف جار (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے اتم فعل محذوف کے (اتم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضلّہ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لام) حرف تاکید برائے جواب قسم (افعلن) فعل مضارع معلوم واحد متکلم متوکد بانون تاکید مقیہ مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (انا) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل (کذا) اسم کنایہ از غیر عدد مبنی بر سکون منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہوئی قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ

نحو لرحم بزید

(ترجمہ) جیسے رحم کیجئے زید پر۔ کہتے ہیں یہ احتمال صحیح نہیں ہے  
 ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع  
 لفظاً "مضاف (ارحم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر بنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ب) (ب)  
 حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور  
 ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر  
 مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی  
 مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو زید بالبلد

(ترجمہ) جیسے زید شہر میں ہے۔

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع  
 لفظاً "مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً"  
 مبتدا (ب) حرف جار (البلد) محرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ  
 لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر  
 جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا  
 محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

(ترجمہ) جیسے قول ہے اللہ تعالیٰ کا مت ڈالو تم اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع  
 لفظاً "مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف  
 الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعالیٰ) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب  
 متصل الفی جزی رفع تقدیراً "مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ  
 خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (قول) مصدر مضاف کا (قول)  
 مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا۔ قول تقاضا کرتا ہے مقولہ مقبول بہ کا (واو) حرف عاطفہ (لا  
 لتلقوا) فعل مضارع ماضی معلوم جمع مذکر حاضر رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے مجرور لفظاً" فعل

ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلا "فاعل (ب) حرف جار زائدہ (ایدی) اسم مقوم جمع کسرف مع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسوف کے مجرور تقدیر" منصوب معنی "مضاف (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب معنی "مفعول بہ (الی) حرف جار (التہلکة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر منصوب محلا "مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

واللام للاختصاص وللتملیک وللزیادة وللتعلیل وللقسم وللمعاقبة  
(ترجمہ) اور حرف لام خصوصیت بتانے کیلئے آتا ہے اور لام تملیک کے لئے آتا ہے اور لام زائدہ بھی ہوتا ہے اور لام علت بتانے کے لئے بھی آتی ہے۔ لام قسم کے لئے بھی آتی ہے اور لام انجام بتانے کے لئے بھی آتی ہے۔  
ترکیب - (واو) حرف عطف (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتدا (لام) حرف جار (الاختصاص) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (لام) حرف جار (التملیک) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول (واو) حرف عطف (لام) حرف جار (الزیادة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی (واو) حرف عطف (لام) حرف جار (التعلیل) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثالث (واو) حرف عطف (لام) حرف جار (القسم) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف رابع (واو) حرف عطف (لام) حرف جار (المعاقبة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف خامس ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے پانچوں معطوفوں سے مل کر طرف مستتر مرفوع محلا" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو الجبل للفرس

(ترجمہ) جیسے جموں گھوڑے کیلئے ہے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصوب جاری جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے

مرفوع لفظاً" مضاف (الجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتدا (لام) حرف جار (الفرس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثال) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### نحو المال لزید

(ترجمہ) جیسے مال زید کی ملکیت ہے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (المال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتدا (لام) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثال) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### نحو ردف لکم اور دلفکم

(ترجمہ) جیسے ردف لکم یعنی فلاں شخص تمہارا ردف ہے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ردف) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" فاعل ہے (جو آئندہ آیت میں آ رہا ہے) حرف جار زائدہ (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" (باعتبار محل قریب منصوب معنی" (باعتبار محل بعید) مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (ردف) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" فاعل ہے (جو آئندہ آیت میں آ رہا ہے) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثال) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### نحو جشک لاکر لکم

(ترجمہ) جیسے میں تیرے پاس آیا اس لئے کہ تیری عزت کروں۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (جئت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ک) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ (لام) حرف جار (اکرام) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ک) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو لله لا یوخر الاجل

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کی قسم موت تاخیر نہیں کرتی۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (لام) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (قسم) فعل محذوف کے (قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لا یوخر) فعل مضارع منعی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (الاجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو لزم الشر للشقاوة

(ترجمہ) جسے لزم پکڑا فلاں شخص نے بد بختی کے انجام کیلئے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف - (لزم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الشر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مفعول بہ (لام) حرف جار (الشقاوة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا

لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ومن وهى لا بتداء الغاية وللتبعض وللتبيين وللزيادة

(ترجمہ) اور حروف جارہ میں سے من ہے اور یہ ابتداء غایت کیلئے آتا ہے۔ تبعض کے لئے بھی آتا ہے اور تبیین کے لئے بھی یعنی ابہام کو دور کرنے کے لئے اور (من) زائدہ بھی ہوتا ہے

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (من) مراد لفظ مرفوع محلاً" مبتدا (واو) حرف زائدہ (ہی) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتدا (لام) حرف جار (ابتداء) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الغایۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (التبعض) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (التبیین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (الزیادۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے (ہی) مبتدا کی (ہی) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (من) مبتدا کی (من) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ

(ترجمہ) جیسے سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ تک

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (سرت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (من) حرف جار (البصرۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (الی) حرف جار (الکوفۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر جملہ

فیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو اخذت من الدرہم ای بعض الدرہم  
(ترجمہ) جیسے لئے میں نے بعض درہم

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (اخذت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (من) حرف جار (الدرہم) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (الدرہم) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے (اخذت) فعل مقدر کا (اخذت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان

(ترجمہ) جسے اللہ تعالیٰ کا فریب ہے پس بچو تم بتوں کی گندگی سے یعنی گندگی سے کہ وہ بت گندگی ہیں۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالجمل (تعالی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الفی معنی رفع تقدیراً" مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حل ہے ذوالجمل کا ذوالجمل اپنے حل سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (قول) مصدر مضاف کا (قول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا قول تقاضا کرتا ہے مقولہ مفعول بہ کا (ف) حرف فیض (اجتنبوا) فعل امر حاضر معلوم جمع مذکر حاضر مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ولو) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (الرجس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" ذوالجمل (من) حرف جار (اللاوثان) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح



لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (الرجس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (الذی) اسم موصول (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتدا (الاولئان) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر منصوب محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنے صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے (اجتنبوا) فعل مقدر کا (اجتنبوا) فعل امر حاضر معلوم مبنی بر سکون جمع مذکر ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا کلن ذلک کذا لک) کی (اذا) شرطیہ (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ذلک) اسم اشارہ مبنی بر فتح مرفوع محلاً" اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (کذا لک) اسم اشارہ مبنی بر فتح منصوب محلاً" خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے جزاء مقدم کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم

ترجمہ = جیسے بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو (یہ معنی (من) کے حذف کرنے کی صورت میں بھی باقی ہیں)  
 ترکیب = (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعالی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الفی مبنی بر فتح تقدیراً" مرفوع محلاً" فعل۔ (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (قول) مصدر مضاف کا (قول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا۔ (یغفر) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور واز نماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" فعل۔ (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل۔ (لام) حرف جار (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (من) حرف جار لفظاً" و زائدہ معنی" (ذنوب) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" منصوب معنی" مضاف (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا

مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب معنی "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ہے امر کا (جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے) امر اپنے جواب سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر منصوب محلا " مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظا مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا " خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

والی لانتہاء الغایۃ فی المکان وللمصاحبة

(ترجمہ) اور الی مسافت کی انتہا بتانے کے لئے آتا ہے مکان میں۔

ترکیب = (واو) حرف عاطفہ (الی) مراد لفظ مرفوع محلا " مبتدا (لام) حرف جار (انتہاء) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا " مضاف (الغایۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا " مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل (نی) حرف جار (المکان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے مصدر کے مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظا " مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (المصاحبة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا " خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ

(ترجمہ) جیسے سیر کی میں نے بصرہ سے کوفہ تک۔

ترکیب = (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظا " مضاف (سرت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا " فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا " فاعل (من) حرف جار (البصرۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے۔ (الی) حرف جار (الکوفۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا " خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو قولہ تعالیٰ و لا تاکلوا اموالکم الی اموالکم ای مع اموالکم

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ شانہ کا فرمان ہے مت کھاؤ تم تمہاریوں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر۔

ترکیب۔ (نحو) اسم مفعول منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعالیٰ) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الفی جنی بر فتح تقدیراً" مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر رو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (قول) مصدر مضاف کا (قول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (واو) حرف عاطفہ (لا تاکلوا) فعل مضارع نہی معلوم جمع مذکر حاضر رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور بزم ساتھ حذف نون کے مجرور لفظاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (اموال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (هم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ (الی) حرف جار (اموال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے طرف لغو متعلق ہے (لا تاکلوا) فعل کے (لا تاکلوا) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (مع) ظرف زہا منصوب لفظاً" مضاف (اموال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف (مع) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (لا تاکلوا اموالکم) فعل محذوف کا (لا تاکلوا) فعل مضارع نہی معلوم جمع مذکر حاضر مرفوع لفظاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (اموال) جمع مکسر منصرف صحیح منصوب لفظاً" مضاف (هم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے (لا تاکلوا) فعل کا (لا تاکلوا) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف مثالیہ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہوا۔

وقد یکون ما بعدہا داخلا" فی ما قبلہا ان کان ما بعدہا من جنس ما قبلہا

(ترجمہ) اور الی کا ما بعد کبھی داخل ہوتا ہے اس کے ما قبل کے حکم میں اگر ہو اس کا بعد اس کے ما قبل کی جنس سے۔

ترکیب = (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور حاضر بارزہ رفع ساتھ ضمہ

لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ما) . معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (بعد) طرف زماں منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے وقع فعل محذوف کا (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً اسم ہے (یکون) فعل ناقص کلا (داخلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (نی) حرف جار (ما) . معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (قبل) طرف زماں منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (وقع) فعل محذوف کلا (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (داخلاً) اسم فاعل کے (داخلاً) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء مقدم ہے (ان) حرف شرط و جازم (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجزوم محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ما) . معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (بعد) طرف زماں منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (وقع) فعل محذوف کا (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً" اسم ہے (کن) فعل ناقص کا (من) حرف جار (جنس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ما) . معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (قبل) طرف زماں منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (وقع) فعل مقدر کا (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (جنس) مضاف کا (جنس) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے جزاء مقدم کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

نحو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق  
(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دھوؤ تم اپنے چروں کو اور ہاتھوں کو کہنیوں تک یعنی کہنیوں سمیت۔

ترکیب = (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعلیل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الفی مبنی بر فتح تقدیراً" مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ (قول) مصدر مضاف کا (قول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (ف) حرف جزائیہ (اعسلاوا) فعل امر حاضر معلوم جمع مذکر حاضر مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (وجوہ) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ایدی) اسم منقوص جمع مکسر رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ (الی) حرف جار (الرافق) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء ہے شرط اس کی قرآن پاک میں مذکور ہے یعنی (اذا قمتم الی الصلوٰۃ) (اذا) شرطیہ (قمتم) فعل ماضی معلوم جمع مذکر مخاطب مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (تم) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (الی) حرف جار (الصلوٰۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے جزاء کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثالہ) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقد لا یکون ما بعدھا داخلًا فی ما قبلھا ان لم یکن ما بعدھا من جنس ما قبلھا

(ترجمہ) اور کبھی الی کا بعد الی کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے اگر ما بعد الی از جنس ما قبل الی نہ ہو مثال جیسے اللہ تعالیٰ شانہ کا

فرمان ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل

ترکیب = (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (لا یکن) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از نماز بارز رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل ناقص (ما) معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (بعد) طرف زماں منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (ثبت) فعل مقدر کا (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع

محلّا" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلّا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلّا" اسم ہے (لا یکن) فعل ناقص کا (داخلا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلّا" فاعل (نی) حرف جار (ما) . معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (قبل) ظرف زبان منصوب لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلّا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ ہے (ثبت) فعل مقدر کا (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلّا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (داخلا) اسم فاعل کے (داخلا) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لا یکن) فعل ناقص کی (لا یکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزائے مقدم (ان) حرف شرط (لم یکن) فعل مضارع نئی عمد معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ما) . معنی الذی کے ہے اسم موصول (بعد) ظرف زبان منصوب لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلّا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (ثبت) فعل مقدر کا (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلّا" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلّا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلّا" اسم ہے (لم یکن) فعل ناقص کا (من) حرف جار (جنس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ما) . معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (قبل) ظرف زبان منصوب لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلّا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (ثبت) فعل مقدر کا (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلّا" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلّا" مضاف الیہ ہے (جنس) مضاف کا (جنس) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلّا" خبر ہے (لم یکن) فعل ناقص کی (لم یکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط موخر ہے جزا مقدم کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ۔

نحو قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر پورا کرو تم اپنے روزے کو رات تک

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرور صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلّا" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالجمل (تعالی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب

متعل النی مبنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حل ہے زوال حال کا زوال حال اپنے حل سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (قول) مصدر مضاف کا (قول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (ثم) حرف عاطفہ (اتموا) فعل امر حاضر معلوم جمع مذکر حاضر مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (الصیام) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ (الی) حرف جار (اللیل) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر منصوب محلاً "مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر اسمیہ خبریہ ہوا۔

وحتى لانتهاء الغایة فی الزمان و فی المكان و للمصاحبة

ترجمہ - اور حتی انتہائے غایت کے لئے آتا ہے زمانے کے لئے اور مکان کے لئے اور مصاحبت کے لئے

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (حتی) مراد لفظ مرفوع محلاً "مبتدا (لام) حرف جار (انتہاء) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الغایة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل (نی) حرف جار (الزمان) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (الکان) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (انتہاء) مصدر کے (انتہاء) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (لام) حرف جار (المصاحبة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مرفوع محلاً "خبر ہے (حتی) مبتدا کی (حتی) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(دوسرا احتمال) و حتى لانتہاء الغایة فی الزمان و فی المكان

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (حتی) مراد لفظ مرفوع محلاً مبتداء (لام) حرف جار (انتہاء) مصدر لازمی مجرور لفظاً مضاف (الغایة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مجرور لفظاً موصوف (نی) حرف جار (الزمان) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (الکان) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح

مجروح لفظاً مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (الکائنة) اسم فاعل محذوف کے (الکائنة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مجروح لفظاً اسم فاعل (حی) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجروح لفظاً صفت ہے موصوف اپنی صفت سے مل کر مجروح لفظاً مضاف الیہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجروح لفظاً مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے (حتی) مبتداء کی (حتی) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

نحو نمت البارحة حتى الصباح

(ترجمہ) جیسے سو گیا میں گزشتہ رات صبح تک

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصوب جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (نمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (البارحة) معرف باللام اسم طرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً مفعول فیہ (حتی) حرف جار (الصباح) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجروح لفظاً مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجروح محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو سرت البلد حتى السوق

(ترجمہ) جیسے چلا میں شہر میں بازار تک

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصوب جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (سرت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (البلد) معرف باللام طرف مکان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً مفعول فیہ (حتی) حرف جار (السوق) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجروح لفظاً مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجروح محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔



نحو قرأت وردی حتی الدعاء ای مع الدعاء

(ترجمہ) جیسے میں نے اپنا وظیفہ پڑھا یعنی دعاء کے ساتھ پڑھا

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قرات) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (وردی) غیر جمع مذکر سالم مضاف طرف (ی) متکلم کے منصوب تقدیراً" مفعول بہ (حتی) حرف جار (الدعاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرہ لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظی متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (مع) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (الدعاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (قرات وردی) فعل مقدر کا (قرات) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (وردی) غیر جمع مذکر سالم مضاف طرف (ی) متکلم کے منصوب تقدیراً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وما بعدها قد یکون داخلا" فی حکم ما قبلها وقد لایکون داخلا" فیہ

(ترجمہ) اور حتی کا بائد کبھی ما قبل کے حکم میں شامل ہوتا ہے مثلاً" اور کبھی ما بعد ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (ما) اسم موصول (بعد) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (وقع) فعل محذوف کا (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو متستر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً مبتدا (قد) حرف تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو متستر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (داخلا") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو متستر مرفوع محلاً" فاعل (فی) حرف جار (حکم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ما) اسم موصول (قبل) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (وقع) فعل محذوف کا (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو متستر محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے

فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (حکم) مضاف کا (حکم) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (کیون) فعل ناقص کی (کیون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (قد) حرف تقلیل (لا کیون) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افضل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (لا کیون) فعل ناقص کا (داخلا) "اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (فی) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (داخلا) اسم فاعل کے (داخلا) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (لا کیون) فعل ناقص کی (لا کیون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو اكلت السمكة حتى راسها

(ترجمہ) جیسے میں نے مچھلی کھائی حتیٰ کہ اس کا سر بھی کھایا۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اکلت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (السمكة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ (حتى) حرف جار (راس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو المثال المذكور

(ترجمہ) جیسا کہ مثال مذکور میں ہے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (المثال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے

کے مجرور لفظاً" موصوف (المذکور) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وہی مختصہ بالاسم الظاہر بخلاف الی

(ترجمہ) اور (حتی) یہ اسم ظاہر کے ساتھ مختص ہے بخلاف (الی) کے

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (ھی) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً" مبتدا (مختصہ) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مونث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الظاہر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے (ب) حرف جار (خلاف) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الی) مراد لفظ مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف متعلق (متلبسہ) اسم فاعل محذوف کے (متلبسہ) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مونث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

فلا یقال حتاہ و یقال الیہ

(ترجمہ) پس نہ کہا جائیگا حتاہ اور کہا جائیگا الیہ

ترکیب - (ف) حرف نصیحة (لا یقال) فعل مضارع منفی مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (حتاہ) مراد لفظ مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے۔ فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یقال) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (الیہ) مراد لفظ مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ

اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر جزاء ہے (اذا کان کذا) شرط محذوف کی (اذا کان کذا) شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

و علی للاستعلاء

(ترجمہ) اور علی آتا ہے بلندی کے حصول کو بتانے کیلئے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (علی) مراد لفظ مرفوع محلاً "بتدا (لام) حرف جار (الاستعلاء) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے بتدا کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو زید علی السطح و علیہ دین

(ترجمہ) جیسے زید چھت پر قائم ہے اور زید پر قرضہ سوار ہے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" بتدا (علی) حرف جار (السطح) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے بتدا کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (علی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر مقدم (دین) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" بتدا ہے خبر مقدم کا بتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے بتدا محذوف (مثلاً) کی بتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقد نکون بمعنی الباء

(ترجمہ) اور علی کبھی باء کے معنی میں ہوتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (نکون) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (نکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً" مضاف (الباء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے

مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" خبر ہے (تکون) فعل ناقص کی (تکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو مررت علیہ بمعنی مررت بہ

(ترجمہ) جیسے مررت علیہ یعنی گذرا میں اس کے قریب سے (یہ احتمال صحیح نہیں ہے)

ترکیب - (نحو) اسم مفعول منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مررت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً" مضاف (مررت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (معنی) مضاف کا (معنی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثالہ) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال

نحو مررت بمعنی مررت بہ

(نحو) مضاف (مررت علیہ) مراد لفظ مجرور محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ مجرور تقدیراً" مضاف (مررت بہ) مراد لفظ مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثالہ) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ (یہ احتمال صحیح ہے)

وقد تکون بمعنی فی

(ترجمہ) اور علی کبھی فی کے معنی میں ہوتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عطف (قد) برائے تقلیل (تکون) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع

اور خبر منصوب کو (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" اسم ہے (تکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیر "مضاف (نی) مراد لفظ مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا" خبر ہے (تکون) فعل ناقص کی (تکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو قوله تعالى ان كنتم على سفر ای فی سفر

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (ان كنتم على سفر) یعنی اگر تم سفر میں ہو۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعلی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الفی مبنی بر فتح تقدیر "مرفوع محلا" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلا" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (ان) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماضی معلوم جمع ذکر مخاطب فعل ناقص مبنی بر سکون مجرور محلا" فعل ناقص ساتھ ضمیر بارز (تم) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" اسم ہے فعل ناقص کا (علی) حرف جار (سفر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (نی) حرف جار (سفر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا" خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے (فرهان مقبوضه) جزاء محذوف کی (ف) حرف جزائیہ (رحان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (مقبوضه) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتدا ہے (تستوثقون بہا) خبر مقدر کا (تستوثقون) فعل مضارع معلوم جمع ذکر حاضر مرفوع لفظاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل (ب) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ شرطیہ ہو کر منصوب محلا" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وعن للبعد والمجاورة

(ترجمہ) اور عن معنی بعد اور مجاورة کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (عن) مراد لفظ مرفوع محلا "بتدا (لام) حرف جار (البعء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (المجاورة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا" خبر ہے بتدا کی بتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو رمیت السهم عن القوس

(ترجمہ) جیسے پھینکا میں نے تیر کو کمان سے

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجزی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (رمیت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل (السهم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے منصوب مفعول بہ (عن) حرف جار (القوس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے بتدا محذوف (مثالهما) کی بتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وفی للظرفیة وللاستعلاء

(ترجمہ) اور فی ظرفیت بتانے کیلئے آتا ہے اور کبھی استعلاء کے موقع پر بھی مستعمل ہوتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (فی) مراد لفظ مرفوع محلا "بتدا (لام) حرف جار (الظرفیة) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (الاستعلاء) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا" خبر ہے بتدا کی بتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو المال فی الکیس و نظرت فی الکتاب

(ترجمہ) جیسے مال تھیلی میں ہے اور نظر کی میں نے کتاب میں

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (اللیل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مبتدا (نی) حرف جار (الکیس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (نظرت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (نی) حرف جار (الکتاب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو قوله تعالى ولا وصلبنکم فی جنوع النخل ای علی جنوع النخل

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعالی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الفی مبنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تقدیر قد منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (قول) مصدر مضاف کا (قول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (واو) حرف عاطفہ (لا و وصلبن) فعل مضارع معلوم واحد متکلم موکد بلام و نون ناکید ثقیلہ مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (کم) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "مفعول بہ (نی) حرف جار (جدوع) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (النخل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر (ای) حرف تفسیر (علی) حرف جار (جدوع) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (النخل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملکر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے ملکر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے ملکر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً "مقوله مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ



مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظا مضاف الیہ (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملکر مرفوع لفظا" خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### والکاف للتشبیہ

(ترجمہ) اور کاف میں تشبیہ کے معنی ہوتے ہیں:-

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (الکاف) معرف باللام اسم مفرد منصرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظا" مبتدا (لام) حرف جار (التشبیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### نحو اسحاق کالاسد

(ترجمہ) جیسے ملک محمد اسحاق امیر لشکر، چنگوی شیر کی طرح بہادر ہے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظا" مضاف (اسحاق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظا" مبتدا (کاف) حرف جار برائے تشبیہ (الاسد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا" خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### وقد نکون زائده

(ترجمہ) اور کاف کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (نکون) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" اسم ہے (نکون) فعل ناقص کا (زائده) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظا" خبر ہے (نکون) فعل ناقص کی (نکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو قولہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء ای لیس مثلہ شیء

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کلمہ شئی یعنی اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعالیٰ) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الی مرفوع محلاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مستقیر قد منصوب محلاً حل ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حل سے مل کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (قول) مصدر مضاف کا (قول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (لیس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (کاف) حرف جار زائدہ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً منصوب معنی "خبر مقدم ہے (لیس) فعل ناقص کی (شئی ء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً اسم موخر ہے (لیس) فعل ناقص کا (لیس) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (لیس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً خبر مقدم ہے (لیس) فعل ناقص کی (شئی ء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً اسم موخر ہے (لیس) فعل ناقص کا (لیس) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر منصوب محلاً مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقد نکون بمعنی الاسم

(ترجمہ) اور کاف کبھی ہوتا ہے اسم کے معنی میں

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (نکون) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے (نکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیر مضاف (الاسم) معرف باللام مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیرا مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً خبر ہے (نکون) فعل ناقص کی

(تکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو یضحکن عن کالبرد المنہم

(ترجمہ) ہنستی ہے وہ محبوبہ پچھلے ہوئے اولوں جیسے دانتوں سے

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (یضحکن) فعل مضارع معلوم جمع مونث نائب جنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (عن) مضاف (المنہم) موصوف (المنہم) معرف باللام اسم مفرد مرفوع صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (المنہم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

و مذ و منذ لا ابتداء الغایة فی الزمان المعاضی

(ترجمہ) اور مذ اور منذ زمانہ ماضی میں فعل کی ابتداء غایت بتاتے ہیں۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (ذ) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (منذ) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلاً "مبتدا (لام) حرف جار (ابتداء) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الغایة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الغایة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الماضی) معرف باللام اسم مقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسوہ کے مجرور تقدیر" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (ابتداء) مصدر مضاف کے (ابتداء) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف متقرر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو مارایتہ مذ یوم الجمعة لو منذ یوم الجمعة ای ابتداء عدم رؤیتہ ایہا کان یوم الجمعة الی الان

(ترجمہ) جیسے میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتداء جمعہ کے دن سے ہوئی ہے جو

اب تک جاری ہے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مارایت) فعل ماضی منفی معلوم واحد متکلم مثنیٰ بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ (ند) حرف جار (یوم) ظرف زمان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الجمعة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مارایت) فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (او) حرف عطفہ (مند) حرف جار (یوم) ظرف زمان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الجمعة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مارایت) فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (ای) حرف تفسیر (ابتداء) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (عدم) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی فاعل (رویت) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی فاعل (رویت) مضاف (ی) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل (ایاہ) ضمیر منصوب مسفعل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے (رویت) مصدر مضاف کا (رویت) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (عدم) مصدر مضاف کا (عدم) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (ابتداء) مصدر مضاف کا (ابتداء) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتدا (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہن بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کن) فعل ناقص کا (یوم) ظرف زمان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (الجمعة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (کن) فعل ناقص کی (الی) حرف جار (الان) معرف باللام ظرف زمان مثنیٰ بر کسر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (کن) فعل ناقص کے (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور

مخلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہما) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقد نکونان بمعنی جميع المدة

(ترجمہ) اور یہ مذ اور منذ دونوں کبھی مجموعی مدت بتانے کے موقع پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (نکونان) فعل مضارع معلوم تشبیہیہ مونث غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع مخلاً" اسم ہے (نکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً" مضاف (جمع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (المدۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (معنی) مضاف کا (معنی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب مخلاً" خبر ہے (نکون) فعل ناقص کی (نکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو مارایتہ مذیومین لو منذیومین ای جميع مدة انقطاع رؤیتی ایابہ یومان

(ترجمہ) جیسے دو (۲) دن ہوئے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا یعنی انقطاع رویت کی کل مدت دو (۲) دن ہیں۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجروری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مارایت) فعل ماضی منفی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع مخلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع مخلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب مخلاً" مفعول بہ (ذ) حرف جار (یومین) ظرف زمان تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (منذ) حرف جار (یومین) ظرف زمان تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (مارایتہ) فعل محذوف کے (مارایت) فعل ماضی منفی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع مخلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع مخلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب مخلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مفر ہوا (ای) حرف تفسیر (جمع) اسم مفرد منصرف صحیح مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مدۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (انقطاع)

صدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (روایت) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی فاعل (ی) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ سے مرفوع معنی فاعل (ایاہ) ضمیر منصوب منفصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے (روایت) مصدر مضاف کا (روایت) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (انقطاع) مصدر مضاف کا (انقطاع) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (مدۃ) مضاف کا (مدۃ) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (جمع) مضاف کا (جمع) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتدا (یونان) ظرف زمان تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا محذوف (مثلاً) کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ورب للتعلیل

(ترجمہ) اور (رب) قلت تعلق کو بتاتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (رب) مراد لفظ مرفوع محلاً" ابتدا (لام) حرف جار (التعلیل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ولها صدر الکلام

(ترجمہ) اور (رب) صدارت کلام کو چاہتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر مقدم (صدر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الکلام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتدا موخر ہے خبر مقدم کا ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ولا تكون مجرور ہا الا نكرة موصوفة

(ترجمہ) اور نہیں ہوگا مجرور اس (رب) کا مگر کمرہ موصوفہ۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (لا تكون) فعل مضارع منفي معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے

نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (مجزور) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہا) ضمیر مجزور متصل کی مجزور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (لا یکن) فعل ناقص کا (الا) حرف استثناء (نکرۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (موصوفۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (ہی) ضمیر درو متعز مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لا یکن) فعل ناقص کی (لا یکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

ولا یکنون متعلقہ الافعال ماضیا

(ترجمہ) اور نہیں ہوتا متعلق اس (رب) کا مگر فعل ماضی ہوتا ہے

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (لا یکن) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (متعلق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجزور متصل کی مجزور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (لا یکن) فعل ناقص کا (الا) حرف استثناء (فعلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (مانیا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لا یکن) فعل ناقص کی (لا یکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو رب رجل کریم لقیته

(ترجمہ) جیسے شریف آدمی سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے۔

ترکیب - (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجزی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (رب) حرف جار (رجل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجزور لفظاً" موصوف (کریم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجزور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجزور لفظاً" مجزور ہے جار کا جار اپنے مجزور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (لقیته) فعل موخر کے (لقیته) فعل ماضی معلوم واحد متکلم جنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارزہ (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول

یہ اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقد تدخل علی الضمیر المبہم  
(ترجمہ) اور رب کبھی ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ و نون ناکید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (علی) حرف جار (الضمیر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (المبہم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

ولا یکون تمییزہ الا نکرۃ موصوفہ

(ترجمہ) اور نہیں ہوتی تمیز اس مبہم کی مگر نکرہ موصوفہ

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (لا یکون) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (تمییز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (لا یکون) فعل ناقص کا (الا) حرف استثناء (نکرۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (موصوفۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لا یکون) فعل ناقص کی (لا یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو ریه رجلاً" جوادا

(ترجمہ) جیسے سخی آدمی سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے۔

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (رب) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مبہم تمییز (رجلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی



کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (جو ادا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مبالغہ (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم مبالغہ کا اسم مبالغہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" تیز ہے بمم میز کی بمم میز اپنی تیز سے مل کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف متعلق ہے (لقیتہ) فعل محذوف کے (لقیت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ه) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف مثالیہ کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقد یکون للتکثیر

(ترجمہ) اور کبھی (رب) تکثیر کے موقع پر مستعمل ہوتا ہے۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (لام) حرف جار (التکثیر) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف متعلق منصوب محلاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو رب مال صرفتہ

(ترجمہ) جیسے میں نے بہت سامان صرف کیا۔

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (رب) حرف جار (مال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے صرفت فعل مؤخر کے (صرفت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ه) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف مثالیہ کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

والواو للقسام

(ترجمہ) اور واو قسم کا معنی دیتی ہے۔

ترکیب (واو) حرف عطفہ (الواو) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مبتدا (لام) حرف جار (القسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وهی لا ندخل الاعلیٰ الاسم الظاہر لاعلیٰ المضممر

(ترجمہ) اور یہ واو صرف اسم ظاہری پر داخل ہوتا ہے اسم ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔

ترکیب (واو) حرف عطفہ (می) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً مبتدا (لا تدخل) فعل مضارع منفی معلوم واحد مونث عاتب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (می) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً فاعل (الا) حرف استثناء (علی) حرف جار (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً موصوف (الظاہر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستقر محلاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (لا) حرف عطفہ (علی) حرف جار (المضممر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً صفت ہے (الاسم) موصوف محذوف کی (الاسم) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو واللہ لا شرین اللبن

(ترجمہ) جیسے اللہ کی قسم میں دودھ ضرور پیوں گا۔

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (الاسم) فعل محذوف کے (اسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (انا) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لا شرین) فعل مضارع مستقبل معلوم واحد متکلم موکد بلام و نون تائید قلیلہ جنی بر فتح مرفوع محلاً فعل (انا) ضمیر

دو مستقر مرفوع محلا" فاعل (اللبن) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کا قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

و قد نکون بمعنی رب

(ترجمہ) اور کبھی واو رب کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (نکون) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر دو مستقر مرفوع محلا" اسم ہے (نکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیراً" مضاف (رب) مراد لفظ مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا" خبر ہے (نکون) فعل ناقص کی (نکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

نحو و عالم يعمل بعلمه ای رب عالم يعمل بعلمه

(ترجمہ) جیسے وعالم - عمل - علم یعنی بہت سے ایسے عالم جن کا اپنے علم پر عمل ہوتا ہے میں ان سے ملا ہوں۔

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (واو) معنی (رب) حرف جار برائے انشاء تقلیل (عالم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (يعمل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر دو مستقر مرفوع محلا" فاعل (ب) حرف جار (علم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ہے (ذکر مفعول متروک است) مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (تقیث) فعل محذوف کا (تقیث) فعل باضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (رب) حرف جار برائے انشاء تقلیل (عالم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (يعمل) فعل

مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از نماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ب) حرف جار (علم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (لقبیت) فعل مقدر کے (لقبیت) فعل ماضی معلوم واحد منکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

والثناء للقسام  
(ترجمہ) اور تاء قسم کیلئے آتی ہے۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (الثناء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مبتدا (لام) حرف جار (القسام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وهی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالیٰ

(ترجمہ) اور یہ تاء سوائے اسم اللہ تعالیٰ کے اور کسی اسم ظاہر پر داخل نہیں ہوتی

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (ھی) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلاً "مبتدا (لا تدخل) فعل مضارع منعی معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرد از نماز بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (الا) حرف استثناء (علی) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "ذوالحال (تعالی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الفی مبنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتقدیر قد منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ سے ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل

اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو تالہ لاضرین زیدا

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کی قسم میں ضرور ہی زید کو ماروں گا

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (تا) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (ا قسم) فعل مقدر کے (ا قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لاضرین) فعل مضارع معلوم واحد متکلم موکد باللام و نون تائید تکیلیہ جہتی بر فتح مرفوع محلا" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہوئی قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

اعلم انه لا بد للقسمن من الجواب

(ترجمہ) جان لے تو کہ قسم کے لئے جواب قسم ضروری ہے۔

ترکیب (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلا" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (لا) نفی جنس کا ہے طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (بد) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مصدر (لام) حرف جار (ا قسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے مصدر کے مصدر اپنے متعلق سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (لا) نفی جنس کلامن) حرف جار (الجواب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا" خبر ہے (لا) نفی جنس کی (لا) نفی جنس کا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد منصوب محلا" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

فان كان جوابه جملة اسمية فان كانت مثبتة ووجب ان تكون مصدرية بان اولام الابتداء وان كانت منفية كانت مصدرية بماولا وان  
(ترجمہ) پس اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو۔ پھر اگر وہ اسمیہ مثبتہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا آغاز ان (مکسورہ مشدودہ یا مخففہ) یا لام ابتداء سے ہو اور اگر وہ منفی ہو تو اس کا آغاز مایا لایا ان نافیہ سے ہوگا۔

ترکیب (ف) حرف خبیلیہ (ان) حرف شرط و جازم (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجزوم محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (جواب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظا "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا "اسم ہے (کن) فعل ناقص کا (جملة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا "موصوف (اسمیه) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظا "خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی اول (ف) حرف جزائیہ (ان) حرف شرط و جازم (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی بر فتح مجزوم محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "اسم ہے (کانت) فعل ناقص کا (مثبتہ) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مونث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا "اسم مفعول (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظا "خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی ثانی (و جب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (ان) حرف مصدریہ (کون) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "اسم ہے (کون) فعل ناقص کا (مصدر) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مونث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا "اسم مفعول (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل با حرف جار ان مراد لفظ مجرور محلا "معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (لام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "مضاف (الابتداء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظا "خبر ہے (کون) فعل ناقص کی (کون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی اول (ف) حرف شرط و جازم (و جب) فعل کا (و جب) فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ثانی اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی بر فتح مجزوم

علا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع علا" اسم ہے (کانت) فعل ناقص کا (منفیہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی بر فتح مجزوم علا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع علا" اسم ہے (کانت) فعل ناقص کا (مصدر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع علا" نائب فاعل (ب) حرف جار (با) مراد لفظ مجزوم علا" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لا) مراد لفظ مجزوم علا" معطوف (واو) حرف عاطفہ (ان) مراد لفظ مجزوم علا" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجزوم علا" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزوم سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر جزاء ہے شرط اول کی شرط اول اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ بنیاد ہو۔

نحو واللہ ان زیداً قائم واللہ لزید قائم (ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کی قسم زید کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم زید البتہ کھڑا ہے (جواب قسم جملہ اسمیہ شبہ کی مثال) ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجزوم لفظاً" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزوم سے مل کر ظرف متعلق ہے (قسم) فعل مقدر کے (قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع علا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع علا" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجزوم لفظاً" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزوم سے مل کر ظرف متعلق ہے (قسم) فعل مقدر کے (قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے

کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے لفظاً فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لام) حرف ابتدائیہ برائے تاکید (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً مبتدا (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل ہے اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور عملاً "مضاف الیہ ہے (نحی) مضاف کا (نحی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو۔

مثل واللہ مازید قائما واللہ لازید فی الدر ولا عمرو واللہ ان زید قائم

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کی قسم زید نہیں کھڑا اور اللہ تعالیٰ کی قسم زید گھریں نہیں ہے اور نہ عمرو گھریں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم زید نہیں کھڑا (جواب قسم جملہ منیہ کی مثال ہیں)

ترکیب (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق (اقسم) فعل مقدر کے (اقسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (ما) شبہ (بلیس) طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً اسم ہے (ما) شبہ بلیس کا (قائما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل ہے اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر ہے (ما) شبہ بلیس کی (ما) شبہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کی قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے اقسام فعل مقدر کے (اقسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لا) برائے نفی جنس ملغی عن العین (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لا) مکرر برائے تاکید (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ



ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتدا (نی) حرف جار (الدار) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (موجودان) اسم مفعول مقدر کے (موجودان) تشبیہ مذکر رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ہا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف (واو) حرف عاطفہ (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق (اتم) فعل مقدر کے (اتم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (اتا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (ان) حرف نافیہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" ابتدا (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا محذوف (مثالہ) کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وان كان جوابه جملة فعلية فان كانت مثبتة كانت مصدرية باللام وقد لو باللام وحده وان كانت منفية فان كانت فعلا ماضيا كانت مصدرية بما وان كانت فعلا مضارعا" كانت مصدرية بما ولا ولن (ترجمہ) اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ ہو پھر اگر جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو اس کا آغاز لام کے ساتھ ہوگا یا قد کے ساتھ ہوگا یا صرف اکیلے لام کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر جواب قسم جملہ فعلیہ منفیہ ہو پھر اگر فعل ماضی ہو تو اس کا آغاز ما کے ساتھ ہوگا اور اگر جواب قسم فعل مضارع ہو تو اس کا آغاز ما یا لایا لن کے ساتھ ہوگا۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجرور محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (جواب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (جملة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (فعلية) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح

لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اول ہوئی (ف) حرف جزائیہ (ان) حرف شرط و جازم (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی بر فتح مجرّم محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے (کانت) فعل ناقص کلا مثبتہ اسم مفرد منصرف صحیح واحد مونث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً اسم مفعول (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ثانی ہوئی (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی بر فتح مجرّم محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے (کانت) فعل ناقص کا (مصدر) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مونث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً اسم مفعول (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل (ب) حرف جار (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (قد) مراد لفظ مجرور محلاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ب) حرف جار (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ذوالحکم (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مل ہے ذوالحکم کا ذوالحکم اپنے حل سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط ثانی کی شرط ثانی اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی بر فتح مجرّم محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے کانت فعل ناقص کی (منفیہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اول ہوئی (ف) حرف جزائیہ (ان) حرف شرط (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی بر فتح مجرّم محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے کانت فعل ناقص کا (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً موصوف (ماضی) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ثانی ہوئی (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی

برف مجرور محلا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" اسم ہے (کانت) فعل ناقص کا (صدرۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے نصب ساتھ (کانت) فعل ناقص کا (مصدرۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرو لفظی کے نصب ساتھ (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" برف مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط ثانی کی شرط ثانی اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب جہن برف مجرور محلا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" اسم ہے (کانت) فعل ناقص کا (فعلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے نصب ساتھ (مضارعاً) اسم مفرد منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے نصب ساتھ (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (کانت) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب جہن برف مجرور محلا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" اسم ہے (کانت) فعل ناقص کا (مصدرۃ) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مونث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے نصب ساتھ (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (ب) حرف جار (ما) مراد لفظ مجرور محلا" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لا) مراد لفظ مجرور محلا" معطوف (واو) حرف عاطفہ (لن) مراد لفظ مجرور محلا" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ منصوب لفظاً" خبر ہے (کانت) فعل ناقص کی (کانت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر جزاء ہے (وان کانت منفیۃ) شرط کی (وان کانت منفیۃ) شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے (فان کانت مثبتۃ) معطوف علیہ کا (فان کانت مثبتۃ) معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر جزاء ہے شرط اول کی شرط اول یعنی (وان کان جوابہ جملۃ فعلیۃ) اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

مثل واللہ لقد قام زیدو واللہ لافعلن کنا

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کی قسم البتہ تحقیق زید کڑا ہے اور اللہ پاک کی قسم میں ضرور اس طرح کروں گا (جواب قسم جملہ فعلیہ مثبتہ کی مثالیں)

ترکیب - (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع یا

منصوب لفظاً" مضاف (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ا قسم) فعل مقدر کے (ا قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمایر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ا تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لام) حرف تائید (قد) حرف تحقیق (قام) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ا قسم) فعل مقدر کے (ا قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمایر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ا تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لا فعلن) فعل مضارع معلوم واحد متکلم موکد بلام و نون تائید قیلہ مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (ا تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (کذا) اسم کتلیہ مبنی بر سکون منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کا قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی (مثلاً) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(- اور حالت صمی میں -) (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (مثلاً) فعل مقدر کا (مثلاً) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے (اعنی) فعل مقدر کا (اعنی) فعل مضارع معلوم واحد متکلم متصل یائی مجرور از ضمایر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً" فعل (ا تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(آئندہ پوری کتب میں (مثل) کی صرف حالت رفعی ہی بیان کی جائیگی حالت صمی بیان نہیں کی جائیگی پڑھا تو دونوں حالتوں میں جاتا ہے لیکن اختصار کی وجہ سے صرف حالت رفعی کو بیان کیا جائیگا)

مثل واللہ ما قام زید

(ترجمہ) جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم زید نہیں کھڑا (جواب قسم جملہ ماضیہ منفیہ کی مثالیں)

ترکیب - (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (اسم) فعل مقدر کے (اسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ قطیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (ما قام) فعل ماضی منفی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ قطیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کی قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مثل واللہ ما فعلن کذا واللہ لا فعلن کذا واللہ لن فعلن کذا

(ترجمہ) جیسے اللہ پاک کی قسم ہرگز نہیں کوں گا میں اس طرح اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں ہرگز نہیں کوں گا اس طرح (جواب قسم جملہ فعل مضارع ماضیہ منفیہ کی مثالیں)

ترکیب - (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (اسم) فعل مقدر کے (اسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ قطیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (ما فعلن) فعل مضارع منفی معلوم واحد متکلم ہائون تاکید مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (کذا) اسم کنایہ مبنی بر سکون منصوب محلاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ قطیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کا قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (ولو) حرف عاطفہ (ولو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (اسم) فعل مقدر کے (اسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ قطیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (لا فعلن) فعل مضارع منفی معلوم واحد متکلم ہائون تاکید مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (کذا) اسم

کنیہ یعنی بر سکون منصوب محلا" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے قائل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کا قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عطف (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ا قسم) فعل مقدر کے (ا قسم) فعل مضارع معلوم واحد حکم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" قائل ہے فعل کا فعل اپنے قائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (ان فعل) فعل مضارع منفی مستقبل معلوم متوکد بان نائبہ واحد حکم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (ا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" قائل (کذا) اسم کنیہ یعنی بر سکون منصوب محلا" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے قائل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کا قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (شل) مضاف کا (شل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا معذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقد یکون جواب القسم محذوفاً ان کان قبل القسم جملة كالجملة التي وقعت جوابه لو کان القسم واقعا  
بین الجملة المذكورة

(ترجمہ) اور کبھی جواب قسم محذوف بھی ہوتی ہے اگر قسم سے قبل ایسا جملہ ہو جو مماثل ہو اس جملہ کے جواب قسم واقع ہو رہا ہو یا قسم جملہ مذکورہ کے درمیان واقع ہو۔

ترکیب - (واو) حرف عطف (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر نائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از انھل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (جواب) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (القسم) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے۔ (یکون) فعل ناقص کا (محذوفاً) اسم مفرد منصوب صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب قائل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر وال بر جزاء (ان) حرف شرط و جازم (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر نائب مبنی بر فتح مجزوم محلا" فعل از انھل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (قبل) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (القسم) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ

خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عوض ہے جو اب قسم کے (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) بمعرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ا قسم) فعل مقدر کے (ا قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہے (جواب قسم وجوبا" محذوف ہے) قسم اپنے عوض جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ا قسم) فعل مقدر کے (ا قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (زیدا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (عالم) اسم مفرد منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کا قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور عملاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مثل زید واللہ عالم ای واللہ ان زیدا عالم

(ترجمہ) جیسے اللہ تعالیٰ کی قسم زید عالم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم تحقیق زید عالم ہے۔

ترکیب - (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتدا (عالم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عوض ہے جواب قسم کے (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ا قسم) فعل مقدر کے (ا قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل ہے

فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہے (جواب قسم وجوباً" محذوف ہے) قسم اپنی عوض جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (واو) حرف جار برائے قسم (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ا قسم) فعل مقدر کے (ا قسم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوئی (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (عالم) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہے قسم کا قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وحاشا و خلا وعدا کل واحد منها للاستثناء

(ترجمہ) اور حاشا اور خلا اور عدا ان میں سے ہر ایک استثناء کے معنی دیتا ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (حاشا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (خلا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (عدا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مرفوع محلاً" مبتدا (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستتر مجرور محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتدا (لام) حرف جار (الاستثناء) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مثل جاءنی القوم حاشا زید و خلا زید و عدا زید

(ترجمہ) جیسے آئی ہے قوم میرے پاس سوائے زید کے



ترکیب - (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (جاء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع عملاً" فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب عملاً" مفعول بہ (القوم) معرف باللام اسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ مثنوی منہ (حاشا) حرف جار برائے استثناء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" منصوب معنی " معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (خلا) حرف جار برائے استثناء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" منصوب معنی " معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (عدا) حرف جار برائے استثناء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" منصوب معنی " معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مثنوی متصل ہے مثنوی منہ کا مثنوی منہ اپنے مثنوی متصل سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور عملاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(دوسرا احتمال) (غلط ہے) مثل جاءنی القوم حاشا زید و خلا زید و عدا زید

ترکیب - (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" مضاف (جاء) فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح مرفوع عملاً" فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب عملاً" مفعول بہ (القوم) معرف باللام اسم جمع مرفوع لفظاً" فاعل (حاشا) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (خلا) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف (واو) حرف عاطفہ (عدا) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر طرف لغو متعلق ہے جاء فعل کے جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور عملاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوباً على المفعولية

(ترجمہ) اور بعض کا یہ قول ہے کہ جو اسم ان کے بعد واقع ہو وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (قل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع عملاً" فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (هم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع

ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (الواقع) معرف باللام اسم مفرد  
منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" اسم قائل (هو)  
ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" قائل (بعد) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے  
مضاف کا مضاف اپنے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم قائل کا اسم قائل اپنے قائل اور مفعول  
فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان)  
شبہ بالفعل کا (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر قائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے  
جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از اصل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر  
مرفوع محلاً" اسم ہے یکون فعل ناقص کا (منصوباً) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی  
کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب قائل (علی) حرف جار (المفعولیۃ  
( معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار  
اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب قائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب  
لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (ان)  
شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتولیل مفرد ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ  
ہے قول کا قول اپنے قولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

فحينئذ نکون هذه الالفاظ افعال

۱ (ترجمہ) پھر یہ الفاظ اس وقت افضل ہو گئے

ف حرف تفریہہ حينئذ اسکی اصل حين اذ نصب الاسم الواقع بعدها علی المفعولیۃ  
ترکیب - (حين) ظرف زمان منصوب لفظاً" مبدل منہ (اذ) ظرف مبنی بر سکون مجرور محلاً" بدل الکل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ  
اپنے بدل الکل سے مل کر منصوب لفظاً" مضاف (نصب) فعل باضی مجرور واحد مذکر قائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (الاسم)  
معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف  
(الواقع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے  
مرفوع لفظاً" اسم قائل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" قائل (بعد) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی  
مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم قائل کا اسم قائل اپنے  
قائل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب  
قائل (علی) حرف جار (المفعولیۃ) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی  
کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (نصب) فعل کے (نصب) فعل اپنے نائب قائل اور  
متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (حين) مضاف کا (حين) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر

منسوب لفظاً" مفعول فیہ مقدم (کون) فعل مضارع معلوم واحد مونث نائب صحیح مجزؤ از مضاف بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (عندہ) اسم اشارہ جنی بر کسر مرفوع عملاً" موصوف (الانقلاط) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع عملاً" اسم ہے (کون) فعل ناقص کا (انقلاط) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (کون) فعل ناقص کی (کون) فعل ناقص ہے اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہوا۔

(فحیئذ کی جو ترکیب بیان کی گئی ہے یہ تفصیلی اور ابتدائی ترکیب علامہ رضی کی تحقیق ہے)۔۔۔ (دوسرے نمحہ کے نزدیک اسکی ترکیب یوں ہوگی)۔۔۔ (حین) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (اذ) ظرف جنی برسکون مجزور عملاً" مضاف الیہ مضاف تئیں اذ پر جو ہے یہ جملہ مقدر کے عوض ہے (نصب الاسم الواقع بعدها علی المفعولیۃ) جملہ علیہ خبریہ ہو کر مجزور عملاً" مضاف الیہ ہے (اذ) مضاف کا (لا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجزور عملاً" مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا (حین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (کون) فعل ناقص کا (کون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہوا (علامہ رضی کی تحقیق بخار ہے از حافظ حفظ الرحمن لاا)

والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائماً

(ترجمہ) اور ان کا قائل وہ ضمیر ہے جو پیش ان میں مستتر ہوتی ہے۔

ترکیب - (دو) حرف عاطفہ (الفاعل) معرف باللام اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" مرفوع لفظاً" ابتدا (نی) حرف جار (ما) ضمیر مجزور متصل کی مجزور عملاً" مجزور ہے جار کا جار اپنے مجزور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مستتر) اسم مفعول مؤخر کے (ضمیر) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (مستتر) اسم مرفوع منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم قائل (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" قائل (دائماً) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے (زانا) موصوف محذوف کی (زانا) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف ہے صفت کا موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم قائل کا

(دوسرا احتمال)۔۔۔ (دائماً) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے (استاراً) موصوف محذوف کی (استاراً) اسم مرفوع منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف ہے صفت کا موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (مستتر) اسم قائل اپنے قائل اور مفعول مطلق یا مفعول فیہ اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے (ضمیر) موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ

اسیہ خبریہ ہوا  
(تیسرا احتمال)۔

(مستتر) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً ذوالجمل (دائماً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً حل ہے ذوالجمل کا ذوالجمل اپنے حل سے مل کر مرفوع عملاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً صفت ہے (ضمیر) موصوف کی (ضمیر) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے (الفاعل) مبتدا کی (الفاعل) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسیہ خبریہ ہوا۔

(دو سرا احتمال) وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوباً على المفعولية فحينئذ تكون هذا الالفاظ افعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائماً

(ترجمہ) اور بعض کا یہ قول ہے کہ جو اسم ان کے بعد واقع ہو وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہو گا پھر یہ الفاظ اس وقت افعال ہوں گے اور ان کا فاعل وہ ضمیر ہے جو ہمیشہ ان میں مستتر ہوتی ہے۔

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (قل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی بفتح مرفوع عملاً فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً مضاف (هم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (ان) حرف از حرف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً موصوف (الواقع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر منصوب لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً فاعل (بعد) ظرف زمان منصوب لفظاً مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً اسم ہے (یکون) فعل کا ناقص کا (منصوباً) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر منصوب لفظاً اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً نائب فاعل (علی) حرف جار (المفعولية) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فطہ خبریہ ہو کر مرفوع عملاً خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر اسیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (ف) حرف عاطفہ (حين) ظرف زمان منصوب لفظاً مضاف (ان) ظرف زمان جہی بر سکون مجرور عملاً مضاف الیہ مضاف (ان) پر جو تینوں ہے یہ جملہ مقدر کے عوض ہے (نصب الاسم الواقع بعدها على المفعولية) کے عوض ہے (نصب) فعل ماضی مجرور جہی بفتح مرفوع عملاً فعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً

موصوف (الواقع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر مرفوع لفظاً "اسم فاعل (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل (بعد  
 طرف زبان منصوب لفظاً" مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے  
 مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے  
 موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل (علی) حرف جار (المفعولیۃ) معرف باللام اسم مفرد  
 منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (نصب) فعل کے (نصب) فعل اپنے نائب  
 فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور عملاً" مضاف الیہ ہے (از) مضاف کا (از) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر  
 مجرور عملاً" مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا (حین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ مقدم ہے (کنون  
 فعل مضارع معلوم واحد مونث نائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً" فعل از افعال بقیہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر  
 منصوب کو (عنه) اسم اشارہ یعنی بر کسر مرفوع عملاً" موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح مرفوع لفظاً" صفت ہے  
 موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع عملاً" اسم ہے (کنون) فعل ناقص کا (افعال) جمع مکسر منصرف صحیح منصوب لفظاً"  
 خبر ہے (کنون) فعل ناقص کی (کنون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف  
 (واو) حرف عطف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" مرفوع لفظاً" مبتدا (نی) حرف جار (حا) ضمیر مجرور  
 متصل کی مجرور عملاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق مقدم ہے (مستتر) اسم فاعل منوخر کا (ضمیر) اسم  
 مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" موصوف (مستتر) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم فاعل (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً"  
 ذوالحلل (نائما) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" حل ہے ذوالحلل کا ذوالحلل اپنے حل سے مل کر مرفوع عملاً" فاعل ہے اسم  
 فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے (ضمیر) موصوف کی (ضمیر) موصوف  
 اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا  
 معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوف ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب عملاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے  
 مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

فالمثال المذكور فی معنی جاءنی القوم حاشا زیدنا و خلا زیدنا و عدنا زیدنا  
 (ترجمہ) لہذا مذکورہ مثل کے اس طرح اوا ہوں گے میرے پاس قوم آئی اور اس کا فعل مجنی زید سے الگ رہا۔ باقی سب آئے زید  
 نہیں آیا۔

تحقیق - حاشا کی ضمیر ہو جائی فعل کے مصدر (مجہت) کی طرف راجع ہوگی یعنی جاءنی القوم و  
 جانب مجنی القوم زیدنا یعنی قوم کی آمد زید سے الگ رہی (نظن الرحمن)  
 ترکیب - (ف) حرف تفریح (المثل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر  
 ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (المذکور) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح

لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے۔ موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً مبتدا (نی) حرف جار (معنی) اسم منصوبہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسو کے مجرور تقدیراً مضاف (جاہ فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی برقع مرفوع عملاً فعل متعدی (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب عملاً مفعول بہ (القوم) معرف بالاسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً ذوالحال (حاشا) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی برقع تقدیراً ممتلئ الی مرفوع عملاً فعل غیر متصرف (معنی) جانب) (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب عملاً حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (خلا) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی برقع تقدیراً ممتلئ الی مرفوع عملاً فعل (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب عملاً حال ہے (جاہ فی القوم) ذوالحال محذوف کا (جاہ) فعل (نون) وقلیہ (ی) مفعول بہ (القوم) ذوالحال فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عطفہ (عدا) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی برقع تقدیراً ممتلئ الی مرفوع عملاً فعل (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب عملاً حال ہے (جاہ فی القوم) حال محذوف کا (جاہ) فعل (نون) وقلیہ (ی) مفعول بہ (القوم) ذوالحال ہے حال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور عملاً مضاف الیہ ہے (معنی) مضاف کا (معنی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع عملاً خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

و اذا وقعت خلا و عدا بعد ما لوفی صدر الکلام تعیننا للفعلیة

(ترجمہ) اور اس صورت میں خلا اور عدا۔ ما مصدریہ کے بعد واقع ہوں یا یہ دونوں صدر کلام میں واقع ہوں تو ایسی صورت میں وہ دونوں طبیعت کیلئے متعین ہوں گے۔

ترکیب - (واو) حرف عطفہ (اذا) ظرف زمان جہی بر سکون منصوب عملاً مضاف مسنن ہے معنی شرط کو (وقت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب جہی برقع مرفوع عملاً فعل (خلا) مراد لفظ مرفوع عملاً معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (عدا) مراد لفظ مرفوع عملاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع عملاً فاعل (بعد) ظرف زمان منصوب لفظاً مضاف (ما) مراد لفظ مجرور عملاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول بہ ہے

(وقت) فعل کا (وقت) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (صدر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الکلام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (وقتاً) فعل محذوف کے (وقتاً) فعل ماضی معلوم تشبیہ مونث جنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (از) مضاف کا (از) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے (تعینتا) فعل مؤخر کا قائم مقام ہے شرط کے (تعینتا) فعل ماضی معلوم تشبیہ مونث غائب جنی بر فتح ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (لام) حرف جار (الضعلیۃ) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قائم مقام ہے جزاء کے شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

مثل ما خلا زیداً وما عدا زیداً

(ترجمہ) جیسے کہا جائے خلی کیا زید کو اس نے اور دور کیا اس نے زید کو

ترکیب - (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ما) مصدریہ (ظلاً) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی بر فتح تقدیراً" متعلی المنصوب محلاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ما) مصدریہ (عدا) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی بر فتح تقدیراً" متعلی المنصوب محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

تنبیہ - چونکہ ما خلا زیداً جملہ محلاً" منصوب ہے۔ اس لئے تقدیر عبارت یوں ہوگی

جاءنی القوم خالیاً مجبئہم عن زید

ترکیب - (جاء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب

علا" مفعول بہ (القوم) معرف باللام اسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً ذوالحل (خایا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً اسم فاعل (مجسی) مصدر یہی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (مم) ضمیر مجبور متصل کی مجبور علا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل (عن) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مجبور لفظاً مجبور ہے جار کا جار اپنے مجبور سے مل کر ظرف لفظ متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً حل ہے ذوالحل کا ذوالحل اپنے حل سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے (جاہ) فعل کا (جاہ) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اور (ما عدنا زیدنا) جملہ علا" منصوب ہو کر معطوف ہے اس جملہ کی تقدیر عبارت یوں ہوگی

جاءنی القوم مجلوزا مجبئہم زیدنا

ترکیب - (جاہ) فعل ماضی معلوم واحد ذکر نائب مبنی بر فتح مرفوع علا" فعل (نون لا وکالیہ لا ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب علا" مفعول بہ (القوم) معرف باللام اسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً ذوالحل (مجلوزا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً اسم فاعل (مجسی) مصدر یہی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (مم) ضمیر مجبور متصل کی مجبور علا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل (زیدنا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسو لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مفعول بہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً حل ہے ذوالحل کا ذوالحل اپنے حل سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے مفعول بہ کا معطوف علیہ اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا

مثل خلا البیت زیدنا و عدنا القوم زیدنا

(ترجمہ) جیسے خلا ہوا گھر زید سے قوم زید سے آگے نکل گئی

ترکیب - (حل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (علا) فعل ماضی معلوم واحد ذکر نائب مبنی بر فتح تقدیراً "مثل الی مرفوع علا" فعل (البیت) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل (زیدنا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسو لفظی کے مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے



اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (عدا) فعل ماضی معلوم واحد مذکر عاقب مبنی بر فتح تقدیراً "معتل الفی مرفوع محلاً" فعل (القوم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل (زید) اسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (ش) مضاف کا (ش) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا معذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تم النوع الاول بحمد اللہ تعالیٰ

## (النوع الثانی)

النوع الثانی الحروف المشبهة بالفعل

(ترجمہ) (عوامل سائی کی تیرہ قسموں میں سے) دوسری قسم وہ حروف ہیں جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ترکیب - (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (الثانی) معرف باللام اسم مقصود رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مرفوع تقدیراً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتدا (الحروف) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مونث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ب) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

وہی تدخل علی المبتدا والخبر تنصب المبتدا وترفع الخبر

(ترجمہ) اور یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں

ترکیب - (واو) حرف استیغابہ (می) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً" مبتدا (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مونث عاقب مجرور از ضماں بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (المبتدا) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے ب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الخبر) معرف باللام اسم منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا

معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر اول (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً قائل (الابتداء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً قائل ہے (الخبر) معرف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ترفع) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً قائل ہے (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً قائل ہے (الخبر) معرف علیہ اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف لفظاً مفعول بہ ہے معطوف علیہ اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ثانی ہے ابتدا کی ابتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وہی ستہ حروف ان وان وکان ولکن ولیت ولعل

(ترجمہ) اور یہ چھ حروف ہیں ان اور ان اور کن اور کن اور لیت اور لعل

ترکیب - (واو) حرف عاطفہ (می) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً ابتدا (ستہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً اسم عدد مبہم ممیز مضاف (حروف) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً مضاف الیہ تیز ہے مبہم ممیز مضاف کی مبہم ممیز مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مرفوع لفظاً مبدل منہ (ان) مراد لفظ مرفوع محلاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) مراد لفظ مرفوع محلاً معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (کن) مراد لفظ مرفوع محلاً معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (کن) مراد لفظ مرفوع محلاً معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (لیت) مراد لفظ مرفوع محلاً معطوف رابع (واو) حرف عاطفہ (لعل) مراد لفظ مرفوع محلاً معطوف خامس ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مرفوع محلاً بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(دوسرا احتمال) وہی ستہ حروف

(ترجمہ) اور یہ چھ (۶) حروف ہیں۔

ترکیب - (واو) حرف ایسنافیہ (می) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً ابتدا (ستہ) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً اسم عدد مبہم ممیز مضاف (حروف) جمع مکسر منصرف صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً مضاف الیہ تیز ہے مبہم ممیز مضاف کی مبہم ممیز مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ان و ان و کان و لکن و لبت و لعل

(ترجمہ) پہلا ان دوسرا ان اور تیسرا کن اور چوتھا کن اور پانچواں لبت اور چھٹا لعل ہے

ترکیب (ان) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے (احد) مبتدا محذوف کی (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (حا) ضمیر مجبور متصل کی مجبور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتدا ہے خبر کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (دلو) حرف عطف (ان) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے (ثانیہ) مبتدا محذوف کی (ثانی) اسم مقصود رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مرفوع تقدیراً "مضاف (حا) ضمیر مجبور متصل کی مجبور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیراً "مبتدا ہے خبر کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف (دلو) حرف عطف (کن) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے (ثالثہ) مبتدا محذوف کی (ثالث) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (حا) ضمیر مجبور متصل کی مجبور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتدا ہے خبر کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف (دلو) حرف عطف (لکن) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے (رابعہ) مبتدا محذوف کی (رابع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (حا) ضمیر مجبور متصل کی مجبور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتدا ہے خبر کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف (دلو) حرف عطف (لبت) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے (خامسہ) مبتدا محذوف کی (خامس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (حا) ضمیر مجبور متصل کی مجبور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتدا ہے خبر کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف (دلو) حرف عطف (لعل) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے (سادسہ) مبتدا محذوف کی (سادس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (حا) ضمیر مجبور متصل کی مجبور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتدا ہے خبر کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

ان و ان و ہما لتحقیق مضمون الجملة الاسمية

(ترجمہ) ان اور ان اور یہ دونوں (اپنے باہم) جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق ظاہر کرتے ہیں۔

ترکیب - (ان) مراد لفظ مرفوع محلا "معطوف علیہ (دلو) حرف عطف (ان) مراد لفظ مرفوع محلا "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلا "مبتدا (دلو) حرف زائدہ (حا) ضمیر تشبیہ مرفوع منفصل کی مرفوع محلا "مبتدا (لام) حرف جار (تحقیق) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجبور لفظاً "مضاف (مضمون) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجبور لفظاً

مضاف الیہ مضاف منصوب معنی مفعول بہ (الجملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الاسمیة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (مضمون) مضاف کا (مضمون) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (تحقیق) مصدر مضاف کا (تحقیق) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع عملاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع عملاً" خبر ہے ابتدا کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مثل ان زیداً قائم ای حقیقت قیام زید و بلغنی ان زیداً منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زید (ترجمہ) ان زیداً قائم یعنی میں نے قیام کو محقق ظاہر کیا اور (بلغنی ان زیداً منطلق) یعنی مجھے زید کے چلنے کا ثبوت پہنچا۔

ترکیب (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کلا قائم) اسم مفرد منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (حقیقت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع عملاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع عملاً" فاعل (قیام) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر معطوف علیہ (ولو) حرف عطف (بلغ) فعل ماضی معلوم واحد ذکر نائب مبنی بر فتح مرفوع عملاً" فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب عملاً" مفعول بہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (منطلق) اسم مفرد منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع عملاً" فاعل ہے (بلغ) فعل کا (بلغ) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (بلغ) فعل ماضی معلوم واحد ذکر نائب مبنی بر فتح مرفوع عملاً" فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل

کی منصوب محلا" مفعول بہ (ثبوت) مصدر لازمی ر ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (انطلاق) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ہے (انطلاق) مصدر مضاف کا (انطلاق) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (ثبوت) مصدر مضاف کا (ثبوت) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے (بلغ) فعل کا (بلغ) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

وکان وہی للتشبیہ

(ترجمہ) اور کان تشبیہ کے معنی دیتا ہے

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (کن) مراد لفظ مرفوع محلا" مبتدا (واو) حرف زائدہ (ھی) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلا" مبتدا (لام) حرف جار (التشبیہ) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر مبتدا (کن) کی (کن) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

نحو کان علیا اسد

(ترجمہ) جیسے علامہ علی شیر حیدری سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ پاکستان گویا شیر کی طرح بہلور ہیں۔

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (کن) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (علیا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (کن) مشبہ بالفعل کا (اسد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے (کن) مشبہ بالفعل کی (کن) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا محذوف (مثالہ) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ولکن وہی للاسند راک ای لدفع التوہم الناشی من کلام السابق

(ترجمہ) اور چونکہ حرف لکن ہے اسد راک کیلئے مستعمل ہے یعنی اس وہم کو دفع کرنے کیلئے جو سابق کلام سے پیدا ہو۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (کن) مراد لفظ مرفوع محلا" مبتدا (واو) حرف زائدہ (ھی) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلا" مبتدا

لام) حرف جار (الاستدراک) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مفسر (ای) حرف تفسیر (لام) حرف جار (رفع) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (التوهم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الناشئ) معرف باللام اسم مقومس رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیراً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل (من) حرف جار (الکلام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (السابق) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے ملکر طرف لغو متعلق ہے (الناشئ) اسم فاعل کے (الناشئ) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (رفع) مصدر مضاف (الرفع) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے (ھی) مبتدا کی (ھی) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (لکن) مبتدا کی (لکن) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ولهذا لا تقع الابین الجملتین اللتین تکونان متغائرین بالمفہوم

(ترجمہ) اس لئے وہ واقع نہیں ہوتا مگر وہ جملوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے مفہوم میں متغائر ہوتے ہیں۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (ھا) حرف تشبیہ (ذا) اسم اشارہ جہی برسکون مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے لاتیح فعل موخر کے (لا تقع) فعل مضارع منفی معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کیے مرفوع لفظاً" فعل (ھی) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل (الا) حرف استثناء (بین) ظرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (الجملتین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن مائل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن مائل مفتوح کے مجرور لفظاً" موصوف (اللتین) اسم موصول تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن مائل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن مائل مفتوح کیے مجرور لفظاً" اسم موصول (تکونان) فعل مضارع معلوم تشبیہ مونث غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" اسم ہے (تکونان) فعل ناقص کا (متغائرین) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن مائل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن مائل مفتوح کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (ھا) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (المفہوم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور

متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر ہے (کنون) فعل ناقص کی (کنون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے (اللتین) موصول کا (اللتین) موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (بن) مضاف کا (بن) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر منصوب لفظاً مفعول فیہ ہے (لاتقع) فعل کا (لاتقع) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہوا۔

مثل غاب زید لکن بکرا حاضر وما جاءنی زید لکن عمرو اجاهنی (ترجمہ) جیسے زید غیر حاضر ہوا مگر بکرا حاضر ہے اور میرے پاس زید نہیں آیا مگر عمرو آیا ہے میرے پاس ترکیب (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (غاب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہتی برقع مرفوع محلاً فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (کن) حرف از حروف شبہ بالفعل برائے استدراک طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (بکرا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (کن) شبہ بالفعل کا (حاضر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (حو) ضمیر رد مشتمل مرفوع محلاً مضاف کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر ہے (کن) شبہ بالفعل کی (کن) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر استدراک ہے متدرک منہ کا متدرک منہ اپنے استدراک سے مل کر جملہ استدراکیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (ما جاء) فعل ماضی مثنیٰ معلوم واحد مذکر غائب جہتی برقع مرفوع محلاً فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً مفعول بہ مقدم (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (حو) ضمیر رد مشتمل مرفوع محلاً مضاف کا اسم فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر متدرک منہ (کن) حرف از حروف شبہ بالفعل برائے استدراک طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (کن) شبہ بالفعل کا (جاء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہتی برقع مرفوع محلاً فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (کن) شبہ بالفعل کی (کن) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر استدراک ہے متدرک منہ کا متدرک منہ اپنے استدراک سے مل کر جملہ استدراکیہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے ابتدا معطوف (مثلاً) کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہوا۔

ولیت وہی للتمنی

(ترجمہ) اور لیت یہ تمنی کے معنی لوار کرتا ہے

ترکیب (دلو) حرف عطف (یت) مراد لفظ مرفوع علامہ مبتدا (دلو) حرف زائدہ (می) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع علامہ مبتدا (لام) حرف جار (التمنی) معرف باللام اسم مقصود رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسو کے مجرور تقدیراً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع علامہ خبر ہے (می) مبتدا کی (می) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع علامہ خبر ہے (یت) مبتدا کی (یت) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مثل لیت زیداً قائم لی اتعنی قیامہ

(ترجمہ) جیسے لیت زیداً قائم یعنی جی چاہتا ہے کہ زید کھڑا ہوتا

ترکیب (مثل) اسم مفرد منصرف معج رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (یت) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (زیداً) اسم مفرد منصرف معج رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً اسم ہے (یت) شبہ بالفعل کا (قائم) اسم مفرد منصرف معج رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً اسم فاعل (حو) ضمیر دو مستقر مرفوع علامہ فاعل ہے اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر ہے (یت) شبہ بالفعل کی (یت) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (اتعنی) فعل مضارع معلوم واحد منکلم معقل لام الہی از دخل مجرور از حلال بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً فعل (تا) ضمیر دو مستقر مرفوع علامہ فاعل (قیام) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور علامہ مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ہے (قیام) مصدر مضاف کا (قیام) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور علامہ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتدا محذوف (مثلاً) کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ولعل وہی للترجی

(ترجمہ) اور لعل میں امید کا اظہار ہوتا ہے

ترکیب (دلو) حرف عطف (لعل) مراد لفظ مرفوع علامہ مبتدا (دلو) حرف زائدہ (می) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع علامہ مبتدا (لام) حرف جار (الترجی) معرف باللام اسم مقصود رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسو کے مجرور تقدیراً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع علامہ خبر ہے مبتدا کی (می) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ



ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے (لعل) مبتدا کی (لعل) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا "مثل لعل السلطان یکر منی" ترجمہ: جیسے امید ہے کہ بلا شاہ میری عزت کرے گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (لعل) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (السلطان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (لعل) مشبہ بالفعل کا (یکرم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے (لعل) مشبہ بالفعل کی (لعل) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و الفرق بین التمنی و الترجمی ان الاول يستعمل فی الممكنات كما مرو الممتنعات و الترجمی مخصوص بالممكنات"

ترجمہ: تمنی اور ترجمی میں فرق یہ ہے کہ اول (تمنی) کا استعمال ممکن الحصول میں ہوتا ہے اور متمتع الحصول میں بھی اور (ترجمی) صرف ممکن الحصول کے ساتھ خاص ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الفرق) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مصدر (بین) ظرف مکان منصوب لفظاً "مضاف (التمنی) معرف باللام اسم مقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیراً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الترجمی) معرف باللام اسم مقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیراً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور تقدیراً "مضاف الیہ ہے (بین) مضاف کا (بین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے (الفرق) مصدر کا (الفرق) مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتدا (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے نصب ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الترجمی) معرف باللام اسم مقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے نصب ساتھ فتح لفظی کے نصب ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (يستعمل) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "تائب فاعل (بی) حرف جار (الممكنات) معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الممتنعات) معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرو

لفظی کی مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا چار اپنے مجرور سے مل کر طرف نحو متعلق ہے (یستعمل) فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً معطوف علیہ (دو) حرف عاطفہ (مخصوص) اسم مفرد معرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل (ب) حرف جار (الممکنات) معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا چار اپنے مجرور سے مل کر طرف نحو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً معطوف ہے (یستعمل فی الممکنات و الممتنعات) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تباویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(کاف) حرف جار (ہا) اسم موصول (مر) فعل ماضی معلوم مبنی فتح مرفوع محلاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً مجرور ہے جار کا چار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستتر مرفوع محلاً خبر ہے (ہذا) مبتداء محذوف کی (ہذا) مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معترضہ ہوا

”مثل لیت الشباب یعود“

ترجمہ: جیسے کاش جوانی لوٹ آئے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد معرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (لیت) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الشباب) معرف باللام اسم مفرد معرف صحیح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً اسم ہے (لیت) شبہ بالفعل کا (یعود) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (لیت) شبہ بالفعل کی (لیت) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے ابتداء محذوف (مثلاً) کی ابتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فلا یقال لعل الشباب یعود“

ترجمہ: اور نہیں کہا جائے گا لعل الشباب یعود۔

ترکیب ○ (ف) حرف تفریجیہ (لا یقال) فعل مضارع منفی مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے

نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (العلل الشباب یعود) مراد لفظ مرفوع عملاً متب  
فعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”و تدخل ما الكافة على جميعها فتكفها عن العمل“

ترجمہ: اور داخل ہوتا ہے ان تمام ما کافہ پھر روک دیتا ہے ان کو عمل سے۔

ترکیب ○ (ولو) حرف عطف (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ملابز ہازرہ و فون تائید رفع ساتھ ضمہ  
لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (یا) مراد لفظ جہی بر سکون مرفوع عملاً موصوف  
(الكافة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع  
لفظاً اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً  
صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع عملاً فاعل (ملی) حرف جار (جمع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ  
ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً مضاف الیہ  
ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے  
(تدخل) فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عوض ہے شرط کے (ف) حرف فیہ (تکف) فعل  
مضارع معلوم واحد مؤنث غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل  
(می) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً فاعل (ھا) ضمیر منصوب متصل کی منصوب عملاً مفعول بہ (عن) حرف جار (العلل) معرف باللام  
اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل  
اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (کتبت) فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے  
شرط کی (شرط وجوباً محذوف ہے) شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”كقوله تعالى إنما الحكم له واحد وإنما زيد منطلق“

ترجمہ: جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارا سب کا معبود وہی ایک معبود ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ زید بولنے والا

ہے۔

ترکیب ○ (کاف) حرف جار (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع  
لفظاً مضاف الیہ مضاف (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالاجل (تعالی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر  
غائب متصل الفی جہی بر فتح تقدیراً مرفوع عملاً فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر  
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتقدیر قد منصوب عملاً حل ہے ذوالاجل کا ذوالاجل اپنے حل سے مل کر مجرور عملاً مضاف الیہ ہے (قول) مصدر  
مضاف کا (قول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (انما) کلمہ حصر مرکب از (ان) اور (یا) کافہ

عن العمل لامحل لها من الاعراب (الہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (کم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "بتداء (الہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر معطوف علیہ (ولو) حرف عطفہ (انما) کلمہ حصر مرکب از (ان) اور (ما) کافہ عن العمل لامحل لها من الاعراب (انہا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "بتداء (منطلق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم قائل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً "قائل ہے اسم قائل کا اسم قائل اپنے قائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر حرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے بتداء محذوف (مثلاً) کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

تم النوع الثانی بحمد اللہ تعالیٰ

## (النوع الثالث)

"النوع الثالث ما ولا المشبهتان بليس في النفي والدخول على المبتدا والخبر ترفعان الاسم و تنصبان الخبر"

ترجمہ: (موال سامیہ کی تیسری قسم) تیسری قسم وہ (ا) اور (لا) ہیں جو (لیس) کے ساتھ مشبہت رکھتے ہیں معنی نفی میں بتداء اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (الثالث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "بتداء (ا) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف علیہ (ولو) حرف عطفہ (لا) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلاً"

موصوف (المشبهتان) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (ما) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً "ذوالجمل (ب) حرف جار (لیس) مراد لفظ مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر حرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے (فی) حرف جار (النفي) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری

بجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الذخول) معرف باللام مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مصدر (حلی) حرف جار (المبتدا) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لفظاً" معطوف ہے (الذخول) مصدر کے (الذخول) مصدر اپنے متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لفظاً متعلق ہے اسم مفعول کے (ترفعان) فعل مضارع معلوم تشبیہ مؤنث غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے مرفوع لفظاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تنصیبان) فعل مضارع معلوم تشبیہ مؤنث غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے مرفوع لفظاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے (المشبهتان) اسم مفعول کلا (المشبهتان) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں معطوفوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو مازید قائما" ولا زجل کریماً"

ترجمہ: جیسے زید قائم نہیں ہے اور کوئی مرد کریم نہیں ہے۔

ترکیب ○ (خو) اسم مفرد منصرف جاری بجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ا) حرف نفی شبہ بلیس طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (ا) شبہ بلیس کا (قائما) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو متتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (ا) شبہ بلیس کی (ا) شبہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لا) حرف نفی شبہ بلیس طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (رجل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی

کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (۱) شبہ بلیس کا (کریما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" صفت شبہ (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے صفت شبہ کا صفت شبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (۱) شبہ بلیس کی (۱) شبہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و تدخل ما على المعرفة والنكرة ولا تدخل لا الا على النكرة"

ترجمہ: اور ما معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتا ہے اور لا صرف نکرہ پر داخل ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (۱) مراد لفظ مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (المعرفة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (النكرة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (لا تدخل) فعل مضارع منقح معلوم واحد مونث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (۱) مراد لفظ مرفوع محلاً" فاعل (۱) حرف استثناء (علی) حرف جار (النكرة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر متشقی مضرغ ہو کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"مثل ما زيد قائما" و ما رجل ظريفا"

ترجمہ: جیسے زید نہیں کھڑا اور کوئی مرد خوش طبع نہیں ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (۱) حرف نفی شبہ بلیس طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زيد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (۱) شبہ بلیس کا (قائما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (حو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (۱) شبہ بلیس کی (۱) شبہ بلیس اپنے اسم اور خبر

سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (ولو) حرف عاطفہ (لا) حرف نفی شبہ بلیس طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (رجل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (لا) شبہ بلیس کا (طرفاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً" صفت شبہ (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے صفت شبہ کا صفت شبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لا) شبہ بلیس کی (لا) شبہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے بتداء محذوف (مثلاً) کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو لا رجل ظریفاً"

ترجمہ: جیسے کوئی مرد خوش طبع نہیں۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (لا) حرف نفی شبہ بلیس طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (رجل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (لا) شبہ بلیس کا (طرفاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً" صفت شبہ (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے صفت شبہ کا صفت شبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لا) شبہ بلیس کی (لا) شبہ بلیس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے بتداء محذوف (مثلاً) کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ **قم النوع الثالث**

بسم اللہ تعالیٰ

## (النوع الرابع)

"النوع الرابع حروف تنصب الاسم"

ترجمہ: عوالم اسمیہ کی) چوتھی قسم ایسے حروف ہیں جو صرف اسم کو نصب دیتے ہیں۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (الرابع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" بتداء (حروف) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب مجرور از ضمائر بارزہ و نون تاکیدیہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے

مرفوع لفظاً" فعل (می) ضمیر دو مستتر مرفوع عملاً" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ صحیح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع عملاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنے صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر اسمیہ خبریہ ہوا۔  
"فقط"

ترکیب ○ "نظاً"۔ (ف) فیہ (نظ)۔ معنی انتہہ اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

"لذا نصبت بها الاسم فانتہ عن الاعمال فی غیر الاسم"  
ترجمہ: جب نصب دے تو اس کے ساتھ اسم کو ترک جاغیر اسم میں عمل کرنے سے۔

ترکیب ○ (اذا) شرطیہ غیر جازم (نصبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی بر سکون مرفوع عملاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع عملاً" فاعل (ب) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف نحو متعلق ہے فعل کے (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ صحیح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط (ف) حرف جزائیہ (انتہ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون (انت) ضمیر دو مستتر مرفوع عملاً" فاعل (من) حرف جار (الاعمال) معرف باللام جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ صحیح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف نحو متعلق ہے فعل کے (فی) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ صحیح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف نحو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور دونوں مسطوں سے مل کر جملہ فعلیہ انتہائی ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

فقط = (ف) فصیحہ (قط) بمعنی انتہہ اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

"لذا جعلتها ناصبة الاسم فانتہ عن كونها غیر ناصبة"

ترجمہ: جب کہے تو اس میں نصب اسم کو ترک جاغیر نصب کے کرنے سے۔

ترکیب ○ (اذا) شرطیہ غیر جازم (بطلت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی بر سکون مرفوع عملاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع عملاً" فاعل (ھا) ضمیر منصوب متصل کی منصوب عملاً" مفعول بہ (ناصبہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ



ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (انتہ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عن) حرف جار (کون) مصدر ناقص رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف طلب کرتا ہے مصدر ناقص اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی اسم ہے (کون) مصدر ناقص کا (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (ناصبہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کون) مصدر ناقص کی (کون) مصدر ناقص مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی اسم اور خبر سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

فقط = (ف) فصیحہ (قط) بمعنی انتہ۔ اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

"اذا نصبت بها الاسم فانتہ من ان تجعلها عاملة" غیر عمل نصب"

ترجمہ۔ جب نصب دے تو ساتھ اسم کے پس تو رک جا اس بات سے کہ کرے تو اسے عمل میں سوا عمل نصب کے۔

ترکیب ○ (اذا) شرطیہ غیر جازم (نصبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) ضمیر مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (انتہ) فعل امر حاضر معلوم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (من) حرف جار (ان) حرف مصدریہ (تجعل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث نائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ها) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ (عاملة) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (عمل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی

کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف (نصب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (عمل) مضاف کا (عمل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتویل مصدر ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق (انتہ) فعل کے (انتہ) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"وہی سبعة احرف الولو والواوایا وہیا وای والهمزة المفتوحة"

ترجمہ: اور یہ سات حرف ہیں "واو" اور "لا" اور "یا" اور "ایا" اور "ہیا" اور "ای" اور "ا" مفتوح

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (ہی) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (سبعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم عدد بسم میتر مضاف طلب کرتا ہے تمیز مجموع مجرور کو (احرف) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ تمیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مرفوع لفظاً" مبدل منہ (الواو) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عطف (لا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف اول (واو) حرف عطف (یا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف ثانی (واو) حرف عطف (ای) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف ثالث (واو) حرف عطف (ہیا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف رابع (واو) حرف عطف (ای) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف خامس (واو) حرف عطف (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (المفتوحة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف ساوس ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چھ معطوفوں سے مل کر مرفوع لفظاً" بدل البعض ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل البعض سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(دوسرا احتمال) "وہی سبعة احرف"

ترجمہ: اور یہ سات حرف ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (ہی) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (سبعة) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم عدد بسم میتر مضاف (احرف) جمع مکسر منصرف صحیح مجرور لفظاً" مضاف الیہ تمیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”الولو والا ویا وایا وھیاولی والهمزة المفتوحة“

ترجمہ: پہلی ”واو“ ہے اور دوسرا ”الا“ ہے اور تیسرا ”یا“ ہے اور چوتھا ”ایا“ ہے اور پانچواں ”ھیا“ ہے اور چھٹا ”الی“ ہے اور ساتواں ”ہمزہ“ مفتوحہ ہے۔

ترکیب ○ (الواو) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف (احدها) کی (احدها) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (الا) مراد لفظ مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء محذوف (ثانیها) کی (ثانیها) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عطف (یا) مراد لفظ مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء محذوف (ثالثها) کی (ثالثها) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث (واو) حرف عطف (ھیا) مراد لفظ مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء محذوف (خامسا) کی (خامسا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع (واو) حرف عطف (ای) مراد لفظ مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء محذوف (سلاسا) کی (سلاسا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف خامس (واو) حرف عطف (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً موصوف (المفتوحة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث مرفوع لفظاً اسم مفعول (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف (ساجا) کی (ساجا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف سولس ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چھ معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا

”الولو وھی بمعنی مع“

ترجمہ: واو یہ مع کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے

ترکیب (الواو) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مبتداء (واو) حرف زائدہ (ھی) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً مبتداء (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مجرور تقدیر مضاف (مع) مراد لفظ مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے (ھی) مبتداء کی (ھی) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (الواو) مبتداء کی (الواو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

”نحو استوی الماء والخشبة“

ترجمہ: جیسے پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا

ترکیب (نحی) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع

لفظاً مضاف (استوی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الیٰ مبنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً فعل (الماء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل (واو) . معنی (مع) (الخشبہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً مفعول مدہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مدہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"والا وهی للاستثناء

ترجمہ: اور الایہل استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (الا) مراد لفظ مرفوع محلاً مبتداء (واو) حرف زائدہ (می) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً مبتداء (لام) حرف جار (الاستثناء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (الا) مبتداء کی (الا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"وهو متصل لو منقطع"

ترجمہ: اور وہ استثناء متصل ہوگا یا منقطع ہوگا

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً مبتداء (متصل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (منقطع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"تحو جاءنی القوم الا زیداً"

ترجمہ: جیسے آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے (یہ مستثنیٰ متصل کی مثل ہے)

ترکیب (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (جاء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً مفعول بہ (القوم) معرف باللام اسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مستثنیٰ منہ (الا) حرف استثناء (زیداً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً "مستثنیٰ متصل ہے مستثنیٰ منہ کا مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ متصل سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے (جاء) فعل کا (جاء) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کلا (نحو)

مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”نحو ما جاءنی القوم الاحماراً“

ترجمہ: جیسے نہیں آئی قوم مگر گدھا آیا۔ (یہ مستثنیٰ منقطع کی مثل ہے)

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ما جاء) فعل ماضی منفی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً مفعول بہ (القوم) معرف باللام اسم جمع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مستثنیٰ منہ (الا) حرف استثناء (حماراً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً مستثنیٰ منقطع ہے مستثنیٰ منہ کا مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ منقطع سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و یا وہی لنداء القریب و البعید“

ترجمہ: اور ”یا“ یہ ندائے قریب اور بعید دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (یا) مراد لفظ مرفوع محلاً مبتداء (واو) حرف زائدہ (ہی) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً مبتداء (لام) حرف جار (نداء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (القریب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (البعید) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (نداء) مضاف کا (نداء) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے (ہی) مبتداء کی (ہی) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (یا) مبتداء کی (یا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و یا و ہیا و ہما لنداء البعید“

ترجمہ: اور ”یا“ اور ”ہیا“ دونوں نداء بعید کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (یا) مراد لفظ مرفوع محلاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ہیا) مراد لفظ مرفوع محلاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلاً مبتداء (واو) حرف زائدہ (ہا) ضمیر نشیب مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً مبتداء (لام) حرف جار (نداء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے

کے مجرور لفظاً" مضاف (البعید) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے (ح) مبتداء کی (ح) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وای والهمزة المفتوحة وهما النداء القريب"

ترجمہ: اور "ای" اور "ہمزہ" مفتوحہ یہ دونوں نداء قریب کے لئے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ای) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (المفتوحة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (می) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف

سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (واو) حرف زائدہ (ح) ضمیر تشبیہ مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً" مبتداء (لام) حرف جار (نداء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (القریب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے (ح) مبتداء کی (ح) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و هذه الحروف الخمسة تنصب الاسم اذا كان مضافا الى اسم اخر و ترفع الاسم ان لم يكن ذلك الاسم مضافا"

ترجمہ: اور یہ پانچوں حروف اسم کو اس وقت نصب دیتے ہیں جب وہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں اور یہ پانچوں حروف اسم کو رفع دیتے ہیں جب دوسرے اسم کی طرف مضاف نہ ہوں۔

ترکیب ○ (واو) حرف متانہ (ح) حرف تشبیہ (ذہ) اسم اشارہ مبنی بر کسر مرفوع محلاً" موصوف (الحروف) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت اول (الخمسة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ثانی ہے موصوف کی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (می) ضمیر درو مستقر

مرفوع محلاً" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (اذا) ظرف زمان بنی بر سکون منصوب محلاً" مضاف (کلن) فعل باضی معلوم واحد مذکر غائب بنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از فعل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (مضائقاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (الی) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (اخر) اسم مفرد غیر منصرف بسبب و صفت اور وزن فعل کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مجرور حکماً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت ہے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے (تصب) فعل کا (تصب) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف علیہ (وار) حرف عطفہ (ترفع) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء مقدم (ان) حرف شرط و جازم (لم یکن) فعل مضارع نفی محذوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے محذوم لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ذکر) اسم اشارہ بنی بر فتح مرفوع محلاً" موصوف (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنے صفت سے مل کر مرفوع محلاً" اسم ہے (لم یکن) فعل ناقص کا (مضائقاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لم یکن) فعل ناقص کی (لم یکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط مؤخر ہے جزاء مقدم کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو یا عبداللہ و ایا غلام زید و ہیا شریف القوم و ای افضل القوم و اعبد اللہ"  
ترجمہ: جسے آئے اللہ کے بندے اور آئے زید کے غلام اور آئے قوم کے سردار اور آئے قوم کے بزرگ اور آئے اللہ کے بندے۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے

مرفوع لفظاً" مضاف (ب) حرف نداء قائم مقام (ادعو) فعل محذوف کے (ادعو) فعل مضارع معلوم واحد حکم صبح مجرور از ضمائر بارزہ رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل نداء (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عبد) اسم مفرد منصرف صبح رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صبح رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" متلوی مفعول بہ ہے فعل نداء کا فعل نداء اپنے فاعل اور متلوی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (ایا) حرف نداء قائم مقام (ادعو) فعل محذوف کے (ادعو) فعل مضارع معلوم واحد حکم صبح مجرور از ضمائر بارزہ رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل نداء (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (غلام) اسم مفرد منصرف صبح رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صبح رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" متلوی مفعول بہ ہے فعل نداء کا فعل نداء اپنے فاعل اور متلوی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (ھیما) حرف نداء قائم مقام (ادعو) فعل محذوف کے (ادعو) فعل مضارع معلوم واحد حکم صبح مجرور از ضمائر بارزہ رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل نداء (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (شریف) اسم مفرد منصرف صبح رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (القوم) معرف باللام اسم جمع رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" متلوی مفعول بہ ہے فعل نداء کا فعل نداء اپنے فاعل اور متلوی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (ای) حرف نداء قائم مقام (ادعو) فعل محذوف کے (ادعو) فعل مضارع معلوم واحد حکم صبح مجرور از ضمائر بارزہ رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل نداء (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (افضل) اسم مفرد غیر منصرف بسبب علیت اور وزن فعل کے رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جزم ساتھ فتح لفظی کے نصب لفظاً" مضاف (القوم) معرف باللام اسم جمع رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" متلوی مفعول بہ ہے فعل نداء کا فعل نداء اپنے فاعل اور متلوی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (و) ضمیر حرف نداء قائم مقام (ادعو) فعل محذوف کے (ادعو) فعل مضارع معلوم واحد حکم صبح مجرور از ضمائر بارزہ رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل نداء (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عبد) اسم مفرد منصرف صبح رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (اللہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صبح رفح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" متلوی مفعول بہ ہے فعل نداء کا فعل نداء اپنے فاعل اور متلوی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ علیہ تمام معطوفات سے مل کر



جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (خ) مضاف کا (خ) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء معذوف مثلاً کی (مثلاً) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل یازیدو یاربجل"

ترجمہ: جیسے آئے زید اور آئے مرد۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (یا) حرف نداء قائم مقام (ادعو) فعل معذوف کے (ادعو) فعل مضارع معلوم واحد تکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل نداء (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (زید) اسم نکرہ مفرد مثنیٰ بر ضم منصوب محلاً" متلوی مفعول بہ ہے فعل نداء کا فعل نداء اپنے فاعل اور متلوی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (یا) حرف نداء قائم مقام (ادعو) فعل مقدر کے (ادعو) فعل مضارع معلوم واحد تکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل نداء (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (رجل) اسم نکرہ مفرد مثنیٰ بر ضم منصوب محلاً" متلوی مفعول بہ ہے فعل نداء کا فعل نداء اپنے فاعل اور متلوی مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (خ) مضاف کا (خ) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء معذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم النوع الرابع بحمد الله تعالى

## النوع الخامس

النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع

ترجمہ: (عوامل اسمیہ کی) پانچویں قسم ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (الثامس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (حروف) جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے موصوف (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے موصوف لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم

فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وہی اربعۃ احرف ان ولن وکی واذن“

ترجمہ: اور یہ چار حروف ہیں ”ان“ ہے اور ”لن“ ہے اور ”کی“ ہے اور ”اذن“ ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (می) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً ”مبتداء (اربعۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً اسم عدد مجسم تمیز مضاف (احرف) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ تمیز ہے تمیز مضاف کی تمیز مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مرفوع لفظاً مبدل منہ (ان) مراد لفظ مرفوع محلاً ”معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (لن) مراد لفظ مرفوع محلاً ”معطوف اول (واو) حرف عطفہ (کی) مراد لفظ مرفوع محلاً ”معطوف ثانی (واو) حرف عطفہ (اذن) مراد لفظ مرفوع محلاً ”معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مرفوع محلاً بدل البعض ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل البعض سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال۔

”وہی اربعۃ احرف“

ترجمہ: اور یہ چار حروف ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (می) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً ”مبتداء (اربعۃ) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً اسم عدد مجسم تمیز مضاف (احرف) جمع مکسر منصرف صحیح مجرور لفظاً مضاف الیہ تمیز ہے تمیز مضاف کی تمیز مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ان ولن وکی واذن“

ترجمہ: پہلا حرف ”ان“ ہے اور دوسرا حرف ”لن“ ہے اور تیسرا حرف ”کی“ ہے اور چوتھا حرف ”اذن“ ہے۔

ترکیب ○ (ان) مراد لفظ مرفوع محلاً ”خبر ہے مبتداء محذوف (احدا) کی (احدا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (لن) مراد لفظ مرفوع محلاً ”خبر ہے مبتداء محذوف (ثانیا) کی (ثانیا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عطفہ (کی) مراد لفظ مرفوع محلاً ”خبر ہے مبتداء محذوف (ثالثا) کی (ثالثا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عطفہ (اذن) مراد لفظ مرفوع محلاً ”خبر ہے مبتداء محذوف (رابعاً) کی (رابعاً) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تین معطوفوں سے مل کر

کر جملہ معطوفہ ہوا۔

”فان للاستقبال“

”ترجمہ: ”ان“ معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہے۔

ترکیب ○ (فا) حرف غنیلیہ (ان) مراد لفظ مرفوع عملاً ”ابتداء (لام) حرف جار (الاستقبال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع عملاً“ خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وان دخلت علی الماضي“

ترجمہ: اور اگرچہ یہ ماضی پر داخل ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف و ملیہ (دخلت) فعل ماضی معلوم واحد موث غائب مبنی فتح مرفوع عملاً ”فعل (می) ضمیر درو مستقر مرفوع عملاً“ فاعل (طی) حرف جار (الماضی) معرف باللام اسم معقوف رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسوف کے مجرور تقدیراً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے جزاء (اس کی محذوف ہے کیونکہ (ان) و ملیہ کی جزاء ہمیشہ محذوف ہوتی ہے سابقہ جملہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ مجھ جیسی جزاء محذوف ہے یعنی فہمی للاستقبال (ف) حرف جزاء (می) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع عملاً ”ابتداء (لام) حرف جار (الاستقبال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع عملاً“ خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”نحو اسلمت ان ادخل الجنة وان دخلت الجنة“

ترجمہ: جیسے میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (اسلمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع عملاً ”فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع عملاً“ فاعل (ان) حرف مصدریہ (ادخل) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً ”فعل (تا) ضمیر درو مستقر مرفوع عملاً“ فاعل (الجنة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول بہ یا مفعول فیہ ہے فعل کا علی اختلاف الاقوال (ادخل) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلویل مصدر ہو کر مجرور عملاً ”مجرور ہے (لام) جار مقدر کا (لام) جار مقدر اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (اسلمت) فعل کے یا بتلویل مفرد ہو کر

منصوب محلا (بزغ الخافض) مفعول بہ (ا سلت) فعل کا (ا سلت) فعل اپنے فاعل اور اور متعلق یا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (ان) حرف مصدریہ (دغلت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم جہی بر سکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل (الجنت) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ یا مفعول فیہ ہے فعل کا (علی اختلاف الاقوال) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتویل مصدر ہو کر مجرور محلا "مجرور ہے (لام) جار مقدر کا (لام) جار مقدر اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ا سلت) فعل محذوف کے یا بتویل مفرد ہو کر منصوب محلا (بزغ الخافض) مفعول بہ ہے (ا سلت) فعل ہے محذوف کا (ا سلت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم جہی بر سکون مرفوع محلا فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق یا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (نہ) مضاف کا (نہ) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ونسمى هذه مصدرية"

"ترجمہ اور اس ان کو مصدریہ کہتے ہیں۔"

ترکیب ○ (واو) حرف ایستغنیہ (نسمى) فعل مضارع مجہول واحد مؤنث تائب معتل الفی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیر الفعل (عند) اسم اشارہ جہی بر کسر (ان) مصدریہ مشار الیہ محذوف ہے اسم اشارہ کا اسم اشارہ اپنے (ان) مشار الیہ محذوف سے مل کر مرفوع محلا "تائب فاعل (مصدریہ)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے تائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"ولن لتأكيد نفى المستقبل"

ترجمہ اور "لن" نفی مستقبل کی تاکید کیلئے آتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (لن) مراد لفظ مرفوع محلا "مبتداء (لام) حرف جار (تأكيد) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (لنی) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف معنی مفعول بہ (المستقبل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (تأكيد) مصدر مضاف کا (تأكيد) مصدر مضاف (لنی) مضاف کا (لنی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (تأكيد) مصدر مضاف کے مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل لن ترانی“

ترجمہ: جیسے تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“  
مضاف (لن تری) فعل مضارع منفی مستقبل معلوم منوکدہ بالن نائبہ واحد مذکر مخاطب معتل الفی رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب  
ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے منصوب تقدیراً“ فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (نون) وقلیہ (ی)  
ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً“ مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً“  
مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے بتداء محذوف (مثلاً) کی بتداء  
اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”واصلها لان عند الخلیل“

ترجمہ: اور (لن) کی اصل (لا ان) ہے ظلیل نحوی کے نزدیک۔

تحقیق = کلمہ (لن) کے بارے میں تین قول ہیں۔

(۱) پہلا قول (فرا) نحوی کا ہے ان کے نزدیک (لن) اصل میں (لا) تھا پھر (لا) کے (الف) کو (سے) تبدیل کیا تو (لن) ہو گیا دلیل  
اس کی یہ ہے کہ جیسے (نون) کو (الف) سے تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح (الف) کو (نون) سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔  
(۲) دوسرا قول۔ (ظلیل بن احمد) نحوی کا ہے ان کے نزدیک (لن) اصل میں (لا ان) تھا اس کی دو دلیلیں ہیں ایک دلیل عقلی  
ہے دوسری دلیل نقلی ہے:

(۱) دلیل عقلی = یہ ہے کہ کلمہ (لن) بھی کلمہ (ان) کی طرح استقبال کے لئے ہے۔

(۲) دلیل نقلی = یہ ہے جیسے شاعر کا قول ہے

”یرجی المرء مالا ان یلاقى و تعرض دون اقربه الخطوب“

معنی ”لا ان یلاقى“ کا ”لن یلاقى“ ہوا ظلیل نحوی کی دونوں دلیلیں ختم ہوئیں۔

(۳) تیسرا قول (علامہ سیبویہ) نحوی کا ہے ان کے نزدیک یہ (لن) مستقل کلمہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں  
کیا گیا اور یہی (مذہب مختار) ہے کیونکہ حروف میں اصل عدم تصرف ہے (سیبویہ) کی طرف سے (فرا) کی دلیل کا جواب یہ  
ہے کہ تمہارے اس قیاس کی کوئی دلیل نہیں جیسا کہ محقق رضی نے کہا ہے اور ظلیل بن احمد کی دلیل عقلی کا جواب یہ ہے کہ یہ  
استقبال کا فائدہ اس لئے رہتا ہے کہ واضح نے اس کو استقبال کے لئے وضع کیا ہے نیز وہ جملہ جو (لن) کے ساتھ شروع ہو وہ کلام  
تام ہوتا ہے۔ بخلاف اس جملہ کے جس کے شروع میں (ان) ہو اب اگر (لن) کو (ان) پر قیاس کریں تو لازم آئے گا کہ جملہ کی  
تکویل مفرد کے کی جائے جس کا کوئی قائل ہی نہیں اور دلیل نقلی کا جواب یہ ہے کہ اشعار میں وہ چیز جائز ہوتی ہے جو نثر میں جائز  
نہیں ہوتی یہ بحث تو لفظ (لن) کے اصل کے بارے میں تھی

اب دوسری بحث (لن) کے معنی کے بارے میں ہے۔

کلمہ (لن) کے معنی کے بارے میں تین مذہب ہیں۔

(۱) پہلا مذہب = (عند البعض) یہ نفی مؤبد یعنی دائمی نفی کے لئے آتا ہے اس میں دنیا اور آخرت دونوں داخل ہیں۔

(۲) دوسرا مذہب = عند البعض اس میں نابید فی الدنيا ہے فقط۔

(۳) تیسرا مذہب = لیکن عکار مذہب یہ ہے کہ اس میں نفی مؤکد ہوتی ہے تابید باطل ہے جس کی چار دلیلیں ہیں۔

پہلی دلیل = قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے "فلن آکلم الیوم انسیا" اگر (لن) میں تابید ہوتی تو (الیوم) کی قید نہ لگائی جاتی۔

دوسری دلیل = اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے "فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی" اگر (لن) میں تابید ہوتی تو یہ (حتی) والی غایت بھی تابید کے منافی ہے۔

تیسری دلیل = اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے "ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم" اگر (لن) تابید کا فائدہ دیتا تو (ابدا) کا ذکر نہ ہوتا۔

چوتھی دلیل = اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے "رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی و لکن انظر الی الجبل" اگر (لن) میں تابید ہوتی تو اس سے رویت باری تعالیٰ کی آخرت میں بھی نفی ہو جاتی حالانکہ اولہ قطعاً سے آخرت میں رویت باری تعالیٰ ثابت ہے فقط از حافظ حفظ الرحمن بن حافظ رحیم بخش بن مولوی محمد صادق بن محمد شریف حنیفی عفی عنہم۔

ترکیب ○ (واو) حرف استیناف (اصل) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (لا ان) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر اول (عند) ظرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (الکلیل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ثانی ہے مبتداء کی مبتداء اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال۔۔۔

"واصلها عند الخلیل لان"

ترکیب ○ (واو) حرف استیناف (اصل) مصدر مرفوع لفظاً" مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ (عند) ظرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (الکلیل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف متعلق ہے (اصل) مصدر کے (اصل) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (لا ان) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

تیسرا احتمال۔

”و اصلها لان عند الخلیل“

ترکیب ○ (واو) اسینافیہ (اصل) مصدر مرفوع لفظاً ”مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”بتداء (لا ان) مراد لفظ مرفوع محلاً“ ذوالحال (عند) ظرف مکان منصوب لفظاً ”مضاف (الخلیل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً ”مفعول فیہ ہے (ثابتاً)“ اسم فاعل محذوف کا (ثابتاً)“ اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً ”اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً ”حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً“ خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

چونہا احتمال۔

”و اصلها عند الخلیل لان“

ترکیب ○ (واو) حرف اسینافیہ (اصل) مصدر مرفوع لفظاً ”مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”بتداء (عند) ظرف مکان منصوب لفظاً ”مضاف (الخلیل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول فیہ ہے (ثبت) فعل مقدر کا (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً ”فعل (لا ان) مراد لفظ مرفوع محلاً“ فاعل ہے (ثبت) فعل کا (ثبت) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً ”خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

فحذفت الهمزة تخفيفاً فصارت لان“

ترجمہ: پھر حذف کر دیا گیا ہمزه کو تخفیف کی بناء پر پھر ہو گیا ”لان“۔

ترکیب ○ (ف) حرف غنیلہ (حذفت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بفتح (کسرو بسبب السقاء الساکین کے) مرفوع محلاً ”فعل (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”نائب فاعل (تخفيفاً) مصدر فتح ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول لہ ہے فعل مجہول کا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عوض ہے شرط کے (ف) حرف جزائیہ (صارت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً ”فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”اسم ہے (صارت) فعل ناقص کا (لان) مراد لفظ منصوب محلاً ”خبر ہے (صارت)

فعل ناقص کی (صارت) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ (ویسے اس کی شرط وجوبا محذوف ہے۔

”تم حذفت الالف لالتقاء الساکنین فبقیت لن“

ترجمہ: پھر التقاء الساکنین سے الف گر گیا تو ”لن“ باقی رہ گیا۔

ترکیب ○ (ثم) حرف عاطفہ (حذف) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسوا بسبب التقاء الساکنین کے مرفوع محلا“ فعل (الالف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف (الساکنین) معرف باللام اسم تننہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عوض ہے شرط کے (ف) جزائیہ (بقیۃ) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا“ فعل (لن) مراد لفظ مرفوع محلا“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا (ویسے اس کی شرط وجوبا محذوف ہے پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ مجھ جیسی شرط محذوف ہے۔

”وکی للسببۃ ای یکون ماقبلها سبباً لما بعدھا“

ترجمہ: اور کی سبب کے لئے آتا ہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ ما قبل کی ماجد کے لئے سبب ہے۔

ترکیب ○ (ولو) حرف عاطفہ (کی) مراد لفظ مرفوع محلا“ مبتداء (لام) حرف جار

(السببۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از نماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ مرفوع لفظاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ا) اسم موصول (قبل) ظرف زبان منصوب لفظاً“ مضاف (عا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول فیہ ہے (وقع) فعل محذوف کا (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے (ا) موصول کا (ا) موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلا“ اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (سبباً) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً“ مصدر (لام) حرف جار (ا) اسم موصول (بعد) ظرف زبان منصوب لفظاً“ مضاف (عا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول فیہ ہے (وقع) فعل مقدر کا (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل ہے



فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (سببیا) مصدر کے (سببیا) مصدر اپنے متعلق سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہوا۔

"مثل اسلمت کی ادخل الجنة"

ترجمہ: جیسے میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (اسلمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

کی ادخل الجنة

ترکیب (کی) حرف نائبہ علامہ در مضارع (ادخل) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (تا) ضمیر رو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الجنة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

"فان الاسلام سبب لدخول الجنة"

ترجمہ: پس اسلام لایا سبب ہے دخول جنت کے لئے۔

ترکیب ○ (ف) حرف طیلیہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الاسلام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (سبب) (بمعنی مایتوصل بہ الی غیرہ ای ذریعہ) سبب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (لام) حرف جار (دخول) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الجنة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول فیہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول فیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا" صفت ہے موطوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان)

مثبتہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ علیہ ہوا۔  
جملہ علیہ = اس جملہ کو کہتے ہیں جو اپنے ماقبل کی علت ہو اور اس کے لئے کوئی محل اعراب نہ ہو۔

”واذن للجواب والجزاء“

ترجمہ: اور اذن جواب اور جزاء دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (اذن) مراد لفظ مرفوع محلا ”ابتداء (لام) حرف جار (الجواب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”معطوف علیہ (واو) حرف عطف (الجزاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا ”خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وہو لا یتحقق الا فی الزمان المستقبل“

ترجمہ: اور یہ دونوں (جواب اور جزاء) معنی مستقبل میں پائے جاتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف اسینافیہ (هو) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلا ”ابتداء (لا یتحقق) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کی مرفوع لفظاً ”فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا ”فاعل (الا) حرف استثناء (فی) حرف جار (الزمان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”موصوف (المستقبل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا ”فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً ”صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا ”خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فہی لا تدخل الا علی الفعل المستقبل“

ترجمہ: پس لازمی طور پر اس کا دخول فعل مستقبل پر ہوگا۔

ترکیب ○ (فا) حرف جزائیہ (می) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلا ”ابتداء (لا تدخل) فعل مضارع منفی معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا ”فاعل (الا) حرف استثناء (علی) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”موصوف (المستقبل) معرف باللام اسم مفرد

منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مشتبی مفرغ ہو کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے "لذالم يتحقق الجواب و الجزاء الا في الزمان المستقبل" شرط محذوف کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل اذن تدخل الجنة في جواب من قال اسلمت"

ترجمہ: (اس وقت تو جنت میں داخل ہوگا) اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اسلمت (میں مسلمان ہو گیا)۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (اذن) حرف نامیہ (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر حاضر صحیح مجرور از ضماز بازرہ و نون تاکید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الجنة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتولیل مفرد ہو کر مجرور محلاً" ذوالحال (نی) حرف جار (جواب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (من) اسم موصول (قال) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (اسلمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے (من) موصول کلامن) موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (جواب) مضاف (جواب) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم النوع

الخامس بحمد الله تعالى

## النوع السادس

"النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع"

ترجمہ: (حوال سماعیہ کی) چھٹی قسم ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے

مرفوع لفظاً" موصوف (الساوس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (حروف) جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (تجزیم) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف سے مل کر منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" صفت ہے موصوف کی اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وہی خمسة احرف لم ولما ولام الامر ولا النهی وان للشرط والجزاء"

ترجمہ: اور یہ پانچ حروف ہیں "لم" اور "لما" اور "لام الامر" اور "لائی نہی" ہے اور ان شرط اور جزاء کے لئے آتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہی) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً" مبتداء (خمسۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم عدد بمم تمیز مضاف طلب کرتا ہے تمیز مجموع مجرور کو (حرف) جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ تمیز ہے تمیز مضاف کی تمیز مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مرفوع لفظاً" مبدل منہ (لم) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لما) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (لام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الامر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (لا) مراد لفظ مرفوع محلاً" مضاف (النہی) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع محلاً" معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (ان) مراد لفظ مرفوع محلاً" موصوف (لام) حرف جار (الشرط) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الجزاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً" معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر بدل البعض ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل البعض سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر

ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال۔۔ "وہی خمسة احرف"۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (می) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلا "مبتداء (خمسة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ممد بمجم میتر مضاف (احرف) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ تیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"لم ولما ولام الامر ولا النهی وان للشرط والجزاء"

ترجمہ: پہلے حرف "لم" ہے اور دوسرا "لما" ہے اور تیسرا "لام الامر" ہے اور چوتھا "لائے نمی" ہے اور پانچواں "ان" ہے جو شرط اور جزاء کے لئے آتا ہے۔

ترکیب ○ (لم) مراد لفظ مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء محذوف (احدا) کی (احدا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لما) مراد لفظ مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء محذوف (ثانیا) کی (ثانیا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (لام) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "مضاف (الامر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (ثالثا) کی (ثالثا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (لا) مراد لفظ مرفوع محلا" مضاف

(النہی) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء محذوف (را.حما) کی (را.حما) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (ان) مراد لفظ مرفوع محلا" ذوالجل (لام) حرف جار (الشرط) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الجزاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا" حال ہے ذوالجل کا ذوالجل اپنے حال سے مل کر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء محذوف (خامسا) کی (خامسا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"فلم تجعل المضارع ماضیاً منفیاً"

ترجمہ: پس "لم" مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کرتا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غیبیہ (لم) مراد لفظ مرفوع محلا" مبتداء (نجعل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمہ بارزہ و نون تاکید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (می) ضمیر درو

مستتر مرفوع محلا" فاعل (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ (ماضیا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (منصیبا) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل لم يضرب بمعنی ما ضرب"

ترجمہ جیسے لم يضرب (اس نے نہیں مارا) ما ضرب کے معنی میں ہے (اس نے نہیں مارا)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (لم يضرب) مراد لفظ مجرور محلا" ذوالحلال (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیر" مضاف (ماضرب) مراد لفظ مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستتر منصوب محلا" حل ہے ذوالحلال کا ذوالحلال اپنے حل سے مل کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ولما مثل لم لکنها مختصة بالاستغراق"

ترجمہ اور "لما" بھی "لم" کی طرح ہے مگر "لما" استغراق کی نفی کے ساتھ مخصوص ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (لما) مراد لفظ مرفوع محلا" مبتداء (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (لم) مراد لفظ مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" متدرک منہ (لکن) حرف از حروف شبہ بالفعل برائے استدراک طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ها) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" اسم ہے (لکن) شبہ بالفعل کا (مختصة) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (ب) حرف جار (الاستغراق) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (لکن) شبہ بالفعل کی (لکن) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر استدراک ہے متدرک منہ کا متدرک منہ اپنے استدراک سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل لما يضرب زيد اي ما ضرب زيد في شيء من الازمنة الماضية“

ترجمہ: جیسے اب تک زيد نہیں مارا یعنی زيد نے زمانہ ماضی کے کسی حصے میں نہیں مارا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“  
مضاف (لما يضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل (زيد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر کے (ماضرب) فعل ماضی منفی معلوم واحد مذکر غائب جزی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل (زيد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ فاعل (بی) حرف جار (شیء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ موصوف (من) حرف جار (الازمنة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ موصوف (الماضیة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مجرور محلاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء محذوف (مثالہ) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و لام الامر و هي لطلب الفعل اما عن الفاعل الغائب او عن الفاعل المتكلم او عن المفعول الغائب او عن

المفعول المخاطب او عن المفعول المتكلم“

ترجمہ: اور ”لام امر“ یہ فعل کی طلب کے لئے استعمال ہوتا ہے یا تو فاعل غائب سے یا فاعل متکلم سے یا مفعول غائب سے یا مفعول مخاطب سے یا مفعول متکلم سے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (لام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (الامر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ مبتداء (واو) حرف زائدہ (ھی) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلاً“ مبتداء (لام) حرف جار (طلب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ (اما) حرف تردید (عن) حرف جار (الفاعل) معرف

باللام اسم مفرد منصرف ر ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (الغائب) معرف بالللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "موصوف علیہ (او) حرف عاطفہ (عن) حرف جار (الفاعل) معرف بالللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "موصوف علیہ (او) حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول (او) حرف عاطفہ (عن) حرف جار (المفعول) معرف بالللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معرف بالللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "موصوف علیہ (او) حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی (او) حرف عاطفہ (عن) حرف جار (المفعول) معرف بالللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (المخاطب) معرف بالللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "موصوف علیہ (او) حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثالث (او) حرف عاطفہ (عن) حرف جار (المفعول) معرف بالللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معرف بالللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "موصوف علیہ (او) حرف جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (طلب) مصدر کے (طلب) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "موصوف علیہ (او) حرف جار اپنے مجرور سے مل کر طرف متعلق ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (لام الامر) مبتداء کی (لام الامر) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل لیضرب"

ترجمہ: جیسے چاہئے کہ مارے وہ۔ (فاعل غائب کی مثل ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ل) لام امر جہتی بر کسر جازم (یضرب) فعل مضارع معلوم واحد ذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔



”مثل لاضرِب و لنضرب“

ترجمہ: جسے چاہے کہ میں ماروں یا ہم سب ماریں۔ (فاعل متکلم کی مثال ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ل) لام امر مبنی بر کسر جازم (اضرِب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مجزوم لفظاً“ فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ل) لام امر مبنی کسر جازم (نضرب) فعل مضارع معلوم جمع متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مجزوم لفظاً“ فعل (عن) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل لیضرب“

ترجمہ: جیسے چاہے کہ مارا جائے وہ (یہ مفعول غائب کی مثال ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ل) لام امر مبنی کسر جازم (یضرب) فعل مضارع مجہول واحد مذکر صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مجزوم لفظاً“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل لنضرب“

ترجمہ: جیسے چاہے کہ مارا جائے تو (یہ مفعول مخاطب کی مثال ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ل) لام امر مبنی کسر جازم (نضرب) فعل مضارع مجہول واحد مذکر حاضر صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مجزوم لفظاً“ فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل لاضرِب و لنضرب“

ترجمہ: جیسے چاہے کہ میں مارا جاؤں اور چاہے کہ ہم سب مارے جائیں۔ (یہ مفعول متکلم کی مثال ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ل) لام امر مبنی کسر جازم (اضرب) فعل مضارع مجہول واحد حکم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (ل) لام امر مبنی بر کسر جازم (نضرب) فعل مضارع مجہول جمع حکم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مجزوم لفظاً" فعل (نحن) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی ابتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و لا النهی و ہی ضد لام الامر ای لطلب ترک الفعل لما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتکلم لو عن المفعول الغائب او المخاطب او المتکلم"

ترجمہ: اور نہی کا "لا"۔۔۔ امر کے "لام" کی ضد ہے یعنی ترک فعل کی طلب کے لئے آتا ہے یا فاعل غائب سے یا فاعل مخاطب سے یا فاعل متکلم سے یا مفعول مخاطب سے یا مفعول متکلم سے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (لا) مراد لفظ مرفوع محلاً" مضاف (النہی) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (واو) حرف زائدہ (می) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتداء (ضد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (لام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (لام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (ضد) مضاف کا (ضد) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (می) مبتداء کی (می) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (لا النهی) مبتداء کی (لا النهی) اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (لام) حرف جار (طلب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ترک) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (ترک) مصدر مضاف کا (ترک) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (طلب) مصدر مضاف کا (ای) حرف تزیید (من) حرف جار (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الغائب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (المخاطب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع

ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف اول (وا) حرف عاطفہ (المتکلم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (وا) حرف عاطفہ (عن) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف (القائب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف علیہ (وا) حرف عاطفہ (المخاطب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف اول (وا) حرف عاطفہ (المتکلم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (طلب) مصدر مضاف کے (طلب) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے (می) مبتداء محذوف کی (می) مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہوا۔

"مثل لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا تضرب"

ترجمہ: جیسے نہ مارے وہ اور نہ مار تو اور نہ ماروں میں اور نہ ماریں ہم سب۔ (یہ فاعل غائب اور مخاطب اور متکلم کی مثالیں ہیں) ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (لا یضرب) فعل مضارع نمی غائب معلوم واحد مذکر صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (وا) حرف عاطفہ (لا تضرب) فعل مضارع نمی مخاطب معلوم واحد مذکر صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول (وا) حرف عاطفہ (لا اضرب) فعل مضارع نمی معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً "فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی (وا) حرف عاطفہ (لا تضرب) فعل مضارع نمی معلوم جمع متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً "فعل (نحن) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ

ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل لا یضرب ولا تضرب ولا اضرب ولا تضرب"

ترجمہ: جیسے چاہے کہ نہ مارا جائے وہ اور چاہئے کہ نہ مارا جائے تو اور چاہئے کہ نہ مارا جاؤں میں اور چاہئے کہ نہ مارے جائیں ہم سب۔ (مفعول غائب مخاطب اور متکلم کی مثالیں ہیں)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفعول منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (لا یضرب) فعل مضارع نمی مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (لا تضرب) فعل مضارع نمی مجہول واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عطف (لا تضرب) فعل مضارع نمی مجہول جمع شکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث (واو) حرف عطف (لا تضرب) فعل مضارع نمی مجہول جمع شکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (نحن) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وان وھی تدخل علی الجملتین"

ترجمہ: اور ان یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (ان) مراد لفظ مرفوع محلاً" مبتداء (واو) حرف زائدہ (ھی) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ و نون تاکید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (طی) حرف جار (الجملتین) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و الجملة الاولى تكون فعلية“ و الثانية قد تكون فعلية“ و قد تكون اسمية“

ترجمہ: اور جملہ پہلا (بیش) فعلیہ ہوتا ہے اور جملہ دوسرا کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الجملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے  
 جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ موصوف (الاولی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے  
 جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیراً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ مبتداء (کون) فعل  
 مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ  
 کے مرفوع لفظاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ اسم ہے (کون)  
 فعل ناقص کا (فعلیہ)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب  
 لفظاً“ خبر ہے (کون) فعل ناقص کی (کون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً“ خبر ہے مبتداء  
 کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الثانیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع  
 ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ صفت ہے ”الجملة“ موصوف محذوف کی  
 (الجملة) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ مبتداء (قد) برائے تقلیل (کون) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب  
 صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل از افعال  
 ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ اسم ہے (کون) فعل ناقص کا (فعلیہ)“ اسم  
 مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ خبر ہے (کون) فعل ناقص  
 کی (کون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (کون)  
 فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام  
 کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ اسم ہے  
 (کون) فعل ناقص کا (اسمیہ)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے  
 منصوب لفظاً“ خبر ہے (کون) فعل ناقص کی (کون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ  
 معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مرفوع محلاً“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ  
 اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا۔

”و تسمى الاولى شرطاً“ و الثانية جزاء“

ترجمہ: اور جملہ اولی کا نام شرط ہوتا ہے اور دوسرے جملہ کا نام جزاء۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (تسمى) فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب معتل الفی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ  
 کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً“ فعل (الاولی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر



مراد لفظ مرفوع محلا" فاعل (علی) حرف جار (سبیل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الوجوب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجزوم محلا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الجزاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" ذوالحال (وحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بتاویل (منفرداً) ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (کن) فعل ناقص کا (فعلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (مضارعاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے موصوف لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (تجزم) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" مفعول بہ (علی) حرف جار (سبیل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الجزاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"مثل ان تضرب اضرب وان تضرب ضربت وان تضرب فزید ضارب"

ترجمہ: جیسے اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا اور اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا اور اگر تو مارے گا تو زید بھی مارنے والا ہے۔ (یہ مثالیں علی سبیل الوجوب کی ہیں)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ان) حرف شرط و جازم (تضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل

اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی۔ (اضرب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (تضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ضربت) فعل مضارع معلوم واحد متکلم مثنیٰ بر سکون مجزوم محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (تضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (ضارب) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ثانی سے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجزوم محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو ان ضربت اضرب"

ترجمہ: جیسے اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا (علی سبیل الجواز کی مثل ہے)

ترکیب ○ (خ) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ان) حرف شرط و جازم (ضربت) فعل مضارع معلوم واحد متکلم مثنیٰ بر سکون مجزوم محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اضرب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مجزوم محلاً" مضاف (خ) مضاف (ت) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم النوع السادس بحمد الله

تعالیٰ



## النواع السابع

”النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال كونها مشتملة“ علی معنی ان“  
ترجمہ: (عوامل سامیہ کی) ساتویں قسم وہ اسماء ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں مگر اس وقت جب یہ اسماء معنی ”ان“ پر مشتمل ہوں۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ موصوف (السالج) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ مبتداء (اسماء) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ موصوف (تجزم) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ موصوف (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول بہ (حال) اسم ظرف . معنی وقت بر بنا ظرفیت منصوب لفظاً“ مضاف (کون) اسم مصدر ناقص رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مصدر ناقص مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ مرفوع معنی اسم ہے (کون) مصدر ناقص کا (مشتملہ“) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (علی) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً“ مضاف (ان) مراد لفظ مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً“ خبر ہے (کون) مصدر ناقص کی (کون) مصدر ناقص مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی اسم اور خبر سے مل کر مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے (حال) مضاف کا (حال) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول فیہ ہے (تجزم) فعل کا (تجزم) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و تدخل علی الفعلین و یکون الفعل الاول سبباً للفعل الثانی و یسمى الاول شرطاً و الثانی جزءاً“  
ترجمہ: اور یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں اور فعل اول فعل ثانی کے لئے سبب ہوتا ہے اور اول فعل کا نام شرط اور ثانی فعل کا

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہی) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (الفعلیین) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (سبباً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الثانی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور تقدیراً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" صفت ہے (سبباً) موصوف کی (سبباً) موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (یسمی) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب متصل الٹی مجرد از ضماہر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً" فعل (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الثانی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیراً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل (شرطاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے موصوف (واو) حرف عاطفہ (جزاء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے موصوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے (یسمی) فعل مجہول کا (یسمی) فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"فان كان الفعلان مضارعين او كان الاول مضارعاً ودون الثاني فالجزم واجب في المضارع"

ترجمہ: پھر اگر وہ (شرط اور جزاء) دونوں فعل مضارع ہوں یا ان میں سے اول فعل مضارع (یعنی شرط) اور ثانی (فعل نہ ہو یعنی جزاء) تو فعل مضارع پر جزم ضروری ہوگا۔

ترکیب ○ (ف) حرف نفیہ (ان) حرف شرط و جازم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجزوم محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الفعالان) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (مضارعین) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (مضارعاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے (فعلاً) موصوف محذوف کی (فعلاً) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (دون) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (الثانی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (کان) فعل ناقص کا۔ (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (الجزم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (واجب) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (بی) حرف جار (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (واجب) اسم فاعل کے (واجب) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"وہنی تسعة اسماء من وما وای و منی و اینما واتی و مہما و حیثما واذما"

ترجمہ: اور یہ نو (۹) اسم ہیں "من" ہے اور "ما" ہے اور "ای" ہے اور "متی" ہے اور "اتی" ہے اور "جیما" ہے اور "ازما"

ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ھی) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (تسعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم عدد مبہم ممیز مضاف طلب کرتا ہے تمیز مجموع مجرور کو

— (اسماء) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ تیز ہے" تمیز مضاف کی تمیز مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مرفوع لفظاً "مبدل منہ (من) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ہا) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (ای) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (متی) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (اینما) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف رابع (واو) حرف عاطفہ (انی) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف خامس (واو) حرف عاطفہ (مہما) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف ساوس (واو) حرف عاطفہ (حیشما) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف صالح (واو) حرف عاطفہ (انہا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف ثامن ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے آٹھوں معطوفوں سے مل کر مرفوع محلاً "بدل البعض ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل البعض سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال "وہی تسعة اسماء"

ترجمہ: اور یہ نو (۹) اسم ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (می) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً "مبتداء (تسعة) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم عدد مبمم تمیز مضاف (اسماء) جمع مکسر منصرف صحیح مجرور لفظاً "تیز ہے" تمیز مضاف کی تمیز مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"من و ما و ای و متی و اینما و اتی و مہما و حیشما و انما"

ترجمہ: پہلا "من" ہے اور دوسرا "ہا" ہے اور تیسرا "ای" ہے اور چوتھا "متی" ہے اور پانچواں "ایہما" ہے اور چھٹا "اتی" ہے اور ساتواں "مہما" ہے اور آٹھواں "حیشما" ہے اور نواں "انما" ہے۔

ترکیب ○ (من) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (احدها) مبتداء محذوف کی (احدها) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ہا) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (ثانیہا) مبتداء محذوف کی (ثانیہا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (ای) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (ثالثہا) مبتداء محذوف کی (ثالثہا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (متی) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (رابعہا) مبتداء محذوف کی (رابعہا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (اینما) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (خامسہا) مبتداء محذوف کی (خامسہا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع (واو) حرف عاطفہ (انی) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (سادسہا) مبتداء محذوف کی (سادسہا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف خامس (واو) حرف عاطفہ (مہما) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (سابعہا) مبتداء محذوف کی (سابعہا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ساوس (واو) حرف عاطفہ (حیشما) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (ثامنہا) مبتداء محذوف کی (ثامنہا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف صالح (واو) حرف عاطفہ (انہا) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے (تاسعہا) مبتداء محذوف کی (تاسعہا) مبتداء اپنی خبر

سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف حامن ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

”فمن و هو لا يستعمل الا فی ذوی العقول“

ترجمہ: پس ”من“ وہ نہیں استعمال کیا جاتا لیکن ذوی العقول کے لئے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصییدہ (من) مراد لفظ مرفوع محلا“ مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلا“ مبتداء (لا) يستعمل (فعل مضارع منفی مجهول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ نائب فاعل (الا) حرف استثناء (نی) حرف جار (ذوی) از ملحقات جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے و مثل اسمائے ستہ کبرہ و جمع مذکر سالم وقت اضافت با م معرف باللام مضاف طرف (ی) متکلم کے رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیر“ مضاف (العقول) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مشتئی مفرغ ہو کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ نصییدہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”نحو من یکر منی اکر مہ ای ان یکر منی زید اکر مہ وان یکر منی عمرو اکر مہ“

ترجمہ: جیسے جو شخص میں عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا اگر میری تعظیم زید کرے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا اور اگر عمرو میری تعظیم کرے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (من) اسم شرط و جازم مثنیٰ بر سکون مرفوع محلا“ مبتداء (یکرم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا“ مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ نصییدہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اکرم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل (ان) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا“ مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ نصییدہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم مثنیٰ بر سکون (یکرم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا“ مفعول بہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ نصییدہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اکرم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“

فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (یکرم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (نون) و قلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" مفعول بہ (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اکرم) فعل مضارع معلوم واحد متکلم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (خ) مضاف کا (خ) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و ما و هو لا يستعمل الافی غیر ذوی العقول غالباً"  
ترجمہ: اور "ما" وہ زیادہ تر صرف غیر ذوی العقول میں استعمال کیا جاتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (با) مراد لفظ مرفوع محلا" مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلا" مبتداء (لايستعمل) فعل مضارع منفی مجبول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (الا) حرف استثناء (نی) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" مضاف (ذوی) از ملحقات جمع مذکر سالم مضاف طرف (ی) متکلم کے (مثل اسمائے ستہ کبرہ و جمع مذکر سالم وقت اضافت باسم معرف باللام) رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجزوم لفظاً" مضاف الیہ مضاف (العقول) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجزوم لفظاً" مضاف الیہ ہے (ذوی) مضاف کا (ذوی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (غالباً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجزوم لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے (استعمالاً) موصوف محذوف کی (استعمالاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجزوم لفظاً" موصوف ہے صفت کا موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ

ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے (ا) مبتداء کی (ب) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال ---

"وما هو لا يستعمل الافی غیر ذوی العقول غالباً"

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (با) مراد لفظ مرفوع محلا" مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلا" مبتداء (لا) (لا) حرف استثناء (فی) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" طرف (ی) متکلم کے (و مثل اسمائے ستہ کبرہ و جمع مذکر سالم وقت اضافت باسم معرف باللام تینوں اعراب تقدیری) مجرور تقدیراً" مضاف الیہ مضاف (العقول) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (غالباً) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو ما تشتتر اشتر ای ان تشتتر الفرس اشتر الفرس وان تشتتر الثوب اشتر الثوب"

ترجمہ: جیسے جو چیز تو خریدے گا تو میں خریدوں گا یعنی اگر تو گھوڑا خریدے گا تو میں گھوڑا خریدوں گا اور اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں کپڑا خریدوں گا۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (با) اسم شرط و جازم جنی بر سکون مرفوع محلا" مبتداء (تشتتر) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب معتل یائی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اشتر) فعل مضارع معلوم واحد متکلم معتل یائی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم (تشتتر) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب معتل یائی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الفرس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل

اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اشتر) فعل مضارع معلوم واحد متکلم معتل یائی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الفرس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے منسوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (تشر) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب معتل یائی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الثوب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے منسوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اشتر) فعل مضارع مجزوم واحد متکلم معتل یائی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الثوب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے منسوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجزور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحی) مضاف کا (نحی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء مخدوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"واو و هو لا يستعمل الا في ذوى العقول و تلزمه الاضافة"

ترجمہ: اور "واو" یہ صرف ذوی العقول ہی میں استعمال ہوتا ہے اور لازم الاضافة ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ای) مراد لفظ مرفوع محلاً" مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (لا يستعمل) فعل مضارع منفي مجرد واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (الا) حرف استثناء (نی) حرف جار (ذوی) از مطقات جمع مذکر سالم مضاف طرف (ی) متکلم کے رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ کسره کے مجزور تقدیراً" مضاف (العقول) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجزور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجزور تقدیراً" مجزور ہے جار کا جار اپنے مجزور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تلزم) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہ) ضمیر منسوب متصل کی منسوب محلاً" مفعول بہ (الاضافة) معرف باللام اسم



مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (ہو) مبتداء کی (ہو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے "ای" مبتداء کی (ای) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل ایہم یضربنی اضربہ ای ان یضربنی زید اضربہ وان یضربنی عمرو اضربہ"  
ترجمہ: جیسے ان میں سے جو مجھ کو مارے گا میں اس کو ماروں گا یعنی اگر زید مجھ کو مارے گا تو میں اس کو ماروں گا اور اگر عمرو مجھ کو مارے گا تو میں اس کو ماروں گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ای) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (یضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اضرب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم (یضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اضرب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (یضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اضرب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ

ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے (ایہم) مبتداء کی (ایہم) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

## دوسرا احتمال

"مثل ایہم یضربنی اضربہ ای ان یضربنی زید اضربہ وان یضربنی عمرو اضربہ" ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "مضاف (ای) اسم شرط و جازم . معنی (ان) شرطیہ کے (لازم الاضافة) ہے "ہم" ضمیر کی طرف (یضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب مجزوم لفظاً "فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اضرب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم مجزوم لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم (یضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب مجزوم لفظاً "فعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اضرب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم مجزوم لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (یضرب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب مجزوم لفظاً "فعل (نون) و قایہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اضرب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم مجزوم لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ترجمہ: اور متی یہ زمان اور وقت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

تشریح = جوازم مضارع میں چوتھا اسم ”متی“ ہے اور یہ استغراق کے لئے آتا ہے بالخصوص جب کہ اس کے آخر میں ”ماابھامیہ“ لگ جائے تو استغراق اور ابھام اور زیادہ ہو جاتا ہے مثل ”متی تذهب اذهب“

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (متی) مراد لفظ مرفوع محلا ”ابتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلا ”ابتداء (لام) حرف جار (الزمان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا“ خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا ”خبر ہے (متی) ابتداء کی (متی) ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل متی تذهب اذهب ای ان تذهب الیوم اذهب الیوم وان تذهب غدا اذهب غدا“

ترجمہ: جسے جب تو جائے گا تب ہی میں جاؤں گا یعنی اگر تو آج جائے گا تو میں بھی آج جاؤں گا اور اگر تو کل جائے گا تو میں بھی کل جاؤں گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (متی) اسم شرط و جازم منضمین ہے معنی شرط کو طلب کرتا ہے شرط و جزاء کو منصوب محلا“ مفعول فیہ مقدم (تذهب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً ”فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ازھب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً ”فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم (تذهب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً ”فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (الیوم) معرف باللام ظرف زمان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ازھب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً ”فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (الیوم) معرف باللام ظرف زمان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (تذهب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً ”فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (غدا) ظرف زمان جہی

برقع منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ازھب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل (عدا)" ظرف زبان مبنی برقع منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"واینما وھو للمکان"

ترجمہ: اور اینما یہ مکان کے معنی دینے کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (اینما) مراد لفظ مرفوع محلاً" مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (لام) حرف جار (المکان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل اینما تمش امش ای ان تمش الی المسجد امش الی المسجد و ان تمش الی السوق امش الی السوق"

ترجمہ: جیسے جس جگہ تم چلو گے میں اس جگہ چلوں گا یعنی اگر تم مسجد چلو گے تو میں بھی مسجد چلوں گا اور اگر تم بازار کی طرف چلو گے تو میں بھی بازار کی طرف چلوں گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً"

مضاف (اینما) اسم جازم مضمّن ہے معنی شرط کو طلب کرتا ہے شرط و جزاء کو منصوب محلاً" مفعول فیہ (تمش) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب معتل یائی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرطیہ ہوئی (امش) فعل مضارع معلوم واحد متکلم معتل یائی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم (تمش) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب معتل یائی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل (الی) حرف جار (السجد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور

سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (امش) فعل مضارع معلوم واحد متکلم متصل یائی مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الی) حرف جار (السجد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجزوم لفظاً" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزوم سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (تمش) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب متصل یائی مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الی) حرف جار (السوق) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجزوم لفظاً" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزوم سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (امش) فعل مضارع معلوم واحد متکلم مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجزوم لفظاً" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزوم سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیر ہو کر مجزوم محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وانی و هو ایضاً" للمکان

ترجمہ: اور "انی" بھی مکان کے لئے آتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (انی) مراد لفظ مرفوع محلاً" مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع متصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (لام) حرف جار (الکلی) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجزوم لفظاً" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزوم سے مل کر طرف مستتر مرفوع محلاً" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (انی) مبتداء کی (انی) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(ایضاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے آض فعل مقدر کا (آض) فعل باضی معلوم واحد مذکر عاقب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا۔

”مثل انی تکن اکن ای ان تکن فی البلدة اکن فی البلدة وان تکن فی البادية اکن فی البادية“  
ترجمہ: جیسے جمل تو رہے گا میں وہیں رہوں گا یعنی اگر تو شہر میں رہے گا تو میں بھی شہر میں رہوں گا اور اگر تو جنگل میں رہے گا تو میں جنگل میں رہوں گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً“  
مضاف (انی) اسم جازم منضمّن ہے معنی شرط کو طلب کرتا ہے شرط و جزاء کو منصوب محلاً ”مفعول فیہ مقدم (تکن) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل از افعال تامہ . معنی ”تثبیت“ (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اکن) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل از افعال تامہ . معنی (اثبت) (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم (تکن) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل از افعال تامہ . معنی ”تثبیت“ (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (نی) حرف جار (البلدة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اکن) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل از افعال تامہ . معنی (اثبت) (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (نی) حرف جار (البلدة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ان) حرف عطف (ان) حرف شرط و جازم (تکن) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل از افعال تامہ . معنی (تثبیت) (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (نی) حرف جار (البادية) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اکن) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل از افعال تامہ . معنی (اثبت) (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (نی) حرف جار (البادية) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ان) حرف عطف (ان) حرف شرط و جازم (تکن) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً“ فعل از افعال تامہ . معنی (تثبیت) (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (نی) حرف جار (البادية) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“

جملہ معطوفہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیر ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و مہما و هو للزمان"

ترجمہ: اور "مہما" یہ زمان کے لئے آتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (مہما) مراد لفظ مرفوع محلا "مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلا "مبتداء (لام) حرف جار (الزمان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا "خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے (مہما) مبتداء کی (مہما) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل مہما تذهب اذهب ای ان تذهب الیوم اذهب الیوم وان تذهب غداً اذهب غداً"

ترجمہ: جیسے جب تو جائے گا تو میں جاؤں گا یعنی اگر تو آج جائے گا تو میں آج جاؤں گا اور اگر تو کل جائے گا تو میں کل جاؤں گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (مہما) اسم جازم مضمّن ہے معنی شرط کو طلب کرتا ہے شرط و جزاء کو منصوب محلا "مفعول فیہ مقدم (تذهب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ازھب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط (تذهب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (الیوم) معرف باللام ظرف زمان معرب منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ازھب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (الیوم) معرف باللام ظرف زمان معرب منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط (تذهب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (غداً) ظرف زمان مبنی بفتح منصوب محلا "مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ازھب) فعل مضارع معلوم واحد

ہے (ثبت) فعل محذوف کا (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً "خبر مقدم ہے (کلن) فعل ناقص کی (جملہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (کف) حرف جار (الجملہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (التي) اسم موصول (وقت) فعل متعدی نہیں بلکہ (وقت) معنی (صارت) ماضی معلوم واحد مونث غائب مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے فعل ناقص کا (جواب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "خبر ہے فعل ناقص کی فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (القسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (واقعا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (بین) ظرف مکان منصوب لفظاً "مضاف (الجملہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (المذكورة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مرفوع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر شرط مؤخر ہے جزاء کی شرط اپنی دال بر جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

مثل زید عالم واللہ ای واللہ ان زیدنا عالم

(ترجمہ) جیسے زید عالم واللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم بیک زید عالم ہے۔

ترکیب۔ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مبتدا (عالم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی



متکلم صحیح مجرد از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ندا)" ظرف زبان مبنی بر فتح منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجزور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و حیثما و هو للمکان"

ترجمہ: اور حیثما یہ مکان کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حیثما) مراد لفظ مرفوع محلاً" مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (لام) حرف جار (المکان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجزور لفظاً" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (حیثما) مبتداء کی (حیثما) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل حیثما تقعد اقعداى ان تقعد فى القرية اقعدا فى القرية وان تقعد فى البلدة اقعدا فى البلدة"

ترجمہ: جیسے جہاں تو بیٹھے گا تو میں وہی بیٹھوں گا یعنی اگر تو بستی میں بیٹھے گا تو میں بستی میں بیٹھوں گا اور اگر تو شہر میں بیٹھے گا تو میں شہر میں بیٹھوں گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (حیثما) اسم شرط و جازم مضمون ہے معنی شرط کو طلب کرتا ہے شرط و جزاء کو منصوب محلاً" بر بنا ظرفیت مفعول فیہ مقدم (تقعد) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (اقعد) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم (تقعد) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (نی) حرف جار (القرية) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجزور لفظاً" مجزور ہے جار کا

جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (الغد) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل (نی) حرف جار (القریۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (ان) حرف شرط و جازم (تقعد) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل (نی) حرف جار (البلدۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (الغد) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" فعل (تا) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" فاعل (نی) حرف جار (البلدۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر جلاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ معطوف ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیری ہو کر مجرور عملاً" مضاف الیہ ہے (شل) مضاف کا (شل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

واذما و هو يستعمل فی غیر ذوی العقول  
ترجمہ: اور "اذا" یہ استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول میں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (ان) مراد لفظ مرفوع عملاً" مبتداء (واو) حرف زائدہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع عملاً" مبتداء (یستعمل) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً" نائب فاعل (نی) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" مضاف (ذوی) از ملحقات جمع مذکر سالم (شل) اسمائے ستہ کبرہ مضاف طرف (ی) متکلم کے رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ تقدیر کسوف کے مجرور تقدیراً" مضاف الیہ مضاف (العقول) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع عملاً" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل

کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے (اننا) مبتداء کی (اننا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل اذا ما تفعل افعال ای ان تفعل الخياط افعال الخياطة و ان تفعل الزراعة افعال الزراعة"  
ترجمہ: جیسے جو تو کرے گا تو میں وہی کروں گا یعنی اگر تو سلائی کرے گا تو میں سلائی کروں گا اور اگر تو کھیتی باڑی کرے گا تو میں کھیتی باڑی کروں گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اننا) اسم شرط و جازم منضم ہے معنی شرط کو طلب کرتا ہے شرط و جزاء کو منصوب محلا" بر بنا ظرفیت مفعول فیہ مقدم (تفعل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (افعل) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (ان) حرف شرط و جازم (تفعل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الخياط) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی۔ (افعل) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الخياط) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (تفعل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الزراعة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی۔ (افعل) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الزراعة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر تفسیر ہے مفسر

کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وان كان الفعل الثاني مضارعاً دون الاول فالوجهان في المضارع الجزم والرفع"  
ترجمہ: اور اگر دوسرا فعل مضارع اور اول فعل مضارع نہ ہو تو فعل مضارع میں دونوں طریقہ جائز ہیں۔ (جزم بھی اور رفع بھی)

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجرور محلا فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظا" موصوف (الثانی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیرا" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظا" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (مضارعاً) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظا" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (دون) . معنی (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظا" مضاف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظا" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظا" مفعول فیہ ہے (کان) فعل ناقص کا (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (الوجهان) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظا" مبدل منہ (الجزم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظا" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الرفع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظا" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظا" بدل الکل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر مرفوع لفظا" مبتداء (نی) حرف جار (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل اذا ما كتبت اكتب"

ترجمہ: جیسے جو کچھ تو لکھے گا تو میں وہی کچھ لکھوں گا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظا" مضاف (اذا) اسم شرط و جازم معنی شرط کو طلب کرتا ہے شرط و جزاء کو مبنی بر سکون منصوب محلا" بر بنا ظرفیت مفعول

فیہ مقدم (کتبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی بر فتح مجزوم محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (آکتب) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجزوم از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً "فعل (ت) ضمیر درو مبتدئ مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مجزوم محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدئ محذوف "مثلاً" کی مبتدئ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم النوع السابع بحمد اللہ تعالیٰ

## النوع الثامن

"النوع الثامن اسماء تنصب الاسماء المنكرات على التمييز"

ترجمہ: (عوامل اسمیہ) کی آٹھویں قسم ایسے اسماء ہیں جو اسم مکرمہ کو ص ب دیتے ہیں تیز ہونے کی بناء پر۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "موصوف (الاسماء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتدئ (اسماء) جمع مکرر منصرف صحیح رفع

ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" موصوف (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجزوم از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (می) ضمیر درو مبتدئ مرفوع محلاً" فاعل (الاسماء) معرف باللام جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" موصوف (النكرات) معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر موصوف لفظاً" مفعول بہ

(حلی) حرف جار (التمييز) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" مجزوم ہے جار کا جار اپنے مجزوم سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدئ کی مبتدئ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وهي اربعة اسماء"

ترجمہ: اور یہ چار اسم ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (می) ضمیر مرفوع متصل کی مرفوع محلاً "مبتدئ (الرابعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" اسم عدد مجہم ممیز مضاف طلب کرتا ہے تیز مجموع مجزوم کو

(اسماء) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ تیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"الاول لفظ عشر او عشرون او ثلاثون او اربعون او خمسون او ستون او سبعون او ثمانون او تسعون" ترجمہ: پہلا لفظ عشر ہے یا عشرون ہے یا ثلاثون ہے یا اربعون ہے یا ستون ہے یا سبعون ہے یا ثمانون ہے یا تسعون ہے۔

ترکیب ○ (اول) معرف بلام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الاسم) موصوف محذوف کی (الاسم) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (لفظ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (عشر) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف علیہ (او) حرف عطفہ (عشرون) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف اول (او) حرف عطفہ (ثلاثون) مراد لفظ مجرور محلاً معطوف ثانی (او) حرف عطفہ (اربعون) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف ثالث (او) حرف عطفہ (خمسون) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف رابع (او) حرف عطفہ (ستون) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف خامس (او) حرف عطفہ (سبعون) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف سادس (او) حرف عطفہ (ثمانون) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف سابع (او) حرف عطفہ (تسعون) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف ثامن ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"الذاریب مع احد او اثنين او ثلاث او رابع اور خمس او ست او سبع او ثمان او تسع" ترجمہ: جب یہ مرکب کئے جائیں احد یا اثنين یا ثلاث یا رابع یا خمس یا ست یا سبع یا ثمان یا تسع کے ساتھ۔

ترکیب ○ (ازا) ظرف زمان جہی بر سکون منصوب محلاً" مضاف (رکب) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب جہی بفتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو متتبع مرفوع محلاً" نائب فاعل (مع) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (اثنين) از ملحقات تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً" معطوف اول (او) حرف عطفہ (ثلاث) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ثانی (او) حرف عطفہ (اربع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ثالث (او) حرف عطفہ (خمیس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف رابع (او) حرف عطفہ (ست) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے

کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف خامس (او) حرف عاطفہ (سج) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف سادس (او) حرف عاطفہ (ثمان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف سابع (او) حرف عاطفہ (تسع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف ثامن ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (مع) مضاف کا (مع) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے (رکب) فعل کا (رکب) فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً "مفعول فیہ ہے (تنصب) فعل محذوف کا (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"فان كان المميز مذكرا فطريق التركيب في لفظ احد و اثنان مع عشر ان تقول احد عشر رجلا" و اثنان عشر رجلا "بتذكير الجزئين"

ترجمہ: پس اگر میمز مذکر ہو تو ترکیب کا طریقہ (اس تفصیل کے ساتھ ہے) کہ لفظ احد اور اثنان میں عشر کے ساتھ تم کہو "احد عشر" رجلا باعتبار مرد کے گیارہ ہیں اور باعتبار مرد ہونے کے بارہ ہیں دوں جزؤں کو مذکر لاکر۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیدہ (ان) حرف شرط و جازم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجزوم محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (المیمیز) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (ذکرا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (طریق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (الترکیب) معرف باللام مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مصدر (نی) حرف جار (لفظ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جڑ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اثنان) مراد لفظ مجرور محلاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (الترکیب) مصدر کے (مع) ظرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (عشر) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے (الترکیب) مصدر کا (الترکیب) مصدر اپنے مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف

الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتداء (ان) حرف نامہ علامتہ در مضارع (تقول) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (احد عشر) مرکب بنائی دونوں جز مبنی بر فتح منصوب محلاً" اسم عدد مبہم میز طلب کرتا ہے تیز مفرد منصوب کو (رجلا) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر منصوب محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اثنا عشر) مرکب بنائی جز اول مبنی بر علامتہ رفع اور جز دوم مبنی بر فتح منصوب محلاً" اسم عدد مبہم میز طلب کرتا ہے تیز مفرد منصوب کو (رجلا) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر منصوب محلاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (تذکیر) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرد لفظاً" مضاف (الجزین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرد لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (تذکیر) مصدر مضاف کا (تذکیر) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرد لفظاً" مجرد ہے جار کا جار اپنے مجرد سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"وان كان مونثا فتقول احدی عشرة امرأة" و اثنتا عشرة امرأة "بتانیث الجزین"

ترجمہ: اگر تیز مونث ہو تو یوں کو احدی عشرہ امراۃ گیارہ ہیں عورتوں کے اعتبار سے اور بارہ ہیں عورتوں کے اعتبار سے دونوں جڑوں کو مونث لانے کے ساتھ

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجزوم محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (مونثا) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (تقول) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل اور جزم بھی اس جگہ پر جاز ہے (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (احدی عشرہ) مرکب بنائی جز اول مبنی بر سکون جز دوم مبنی بر فتح منصوب محلاً" اسم عدد مبہم میز طلب کرتا ہے تیز مفرد منصوب کو (امراة) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر منصوب محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اثنا عشرہ) مرکب بنائی جز اول مبنی بر علامتہ رفع جز



دوم منی فتح منصوب محلا" اسم عدد مجسم میتر طلب کرتا ہے تیز مفرد منصوب کو (امراة) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" تیز ہے میتر کی میتر اپنی تیز سے مل کر منصوب محلا" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب محلا" ذوالجل (ب) حرف جار (تانیہ) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (المجرمین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (تانیہ) مصدر مضاف کا (تانیہ) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا" حل ہے ذوالجل کا ذوالجل اپنے حل سے مل کر منصوب محلا" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"و طریق ترکیب غیر ہما الی نسع مع عشر ان تقول فی المذکر ثلاثة عشر رجلا" و لربعة عشر رجلا" الی نسة عشر رجلا" بتانیث الجزء الاول و تذکیر الجزء الثانی و فی المؤنث ثلث عشرة امرأة" و لربیع عشرة امرأة" الی نسع عشرة امرأة" بتذکیر الجزء الاول و تانیث الجزء الثانی"

ترجمہ: اور احدی اور اثنتان کے علاوہ کی ترکیب سح تک عشر کے ساتھ اس طرح ہوگی کہ مذکر میں ثلاث عشر رجلا" اور اربع عشر رجلا سے سح عشر رجلا تک کہ جز اول کو مؤنث اور جز ثانی کو مذکر لائیں گے اور مؤنث میں ثلاث عشرة امرأة" اور اربع عشرة امرأة" سے سح عشرة امرأة" یعنی پہلا جز مذکر اور دوسرا جز مؤنث لائیں گے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (طریق) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ترکیب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (غیر) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (حما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" ذوالجل منصوب معنی مفعول بہ (الی) حرف جار (نسع) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے

"منتھیا" اسم فاعل مقدر کے (منتھیا) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر رو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حل ہے ذوالجل کا ذوالجل اپنے حل سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (ترکیب) مصدر مضاف کا (مع) طرف زبان منصوب لفظاً" مضاف (عشر) مراد لفظ مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (ترکیب) مصدر مضاف کا (ترکیب) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (طریق) مضاف کا (طریق) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء



اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب محلا مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (المونث) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً صفت ہے (اللفظ) موصوف مجزوف کی (اللفظ) موصوف مجزوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے تقول فعل مقدر کے (تقول) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ منصوب لفظاً فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قول ہوا (ثلاث عشرة) مرکب بتائی دونوں جز مبنی بر فتح منصوب محلاً اسم عدد مجہم میتر طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (امراة) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً تمیز ہے میتر کی میتر اپنی تمیز سے مل کر منصوب محلاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اربع عشرة) مرکب بتائی دونوں جز مبنی بر فتح منصوب محلاً اسم عدد مجہم میتر طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (امراة) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً تمیز ہے میتر کی میتر اپنی تمیز سے مل کر

منصوب محلاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب محلاً ذوالحال (الی) حرف جار (تسع عشرة) مرکب بتائی دونوں جز مبنی بر فتح مجرور محلاً اسم عدد مجہم میتر طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (امراة) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً تمیز ہے میتر کی میتر اپنی تمیز سے مل

کر مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے "منتهیین" اسم فاعل مقدر کے (منتهیین) اسم تشبیہہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے منصوب لفظاً اسم فاعل (حما) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ذوالحال (ب) حرف جار (تذکیر) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (الجزء) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (تذکیر) مصدر مضاف کا (تذکیر) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تانیث) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (الجزء) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً موصوف (الثانی) معرف باللام اسم مقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (تانیث) مصدر مضاف کا (تانیث) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً حال ہے ذوالحال کا

زوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے زوالحال کا زوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے (تقول فی المذکر ثلاثۃ عشر رجلاً) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و اما طریق التركيب فی الواحد والاثنين الى تسع مع عشرون و اخواته الى تسعين على سبيل العطف" ترجمہ: ہر حال ترکیب کا طریقہ واحد اور اثنین میں سح تک عشرون اور دوسری دہائیوں کے ساتھ سعون تک عطف کے طریقہ پر ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف استنافیہ (یا) حرف شرط برائے تفصیل (طریق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الترکیب) معرف باللام مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مصدر (فی) حرف جار (الواحد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الاثنین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف علیہ ہے (و ما زاد علیہا) معطوف مقدر کا (واو) حرف عاطفہ (یا) اسم موصول (زار) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" زوالحال (علی) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (الی) حرف جار (تسع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (منتہیاً) اسم فاعل محذوف کے (منتہیاً) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے زوالحال کا زوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" فاعل ہے (زار) فعل کا (زار) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً معطوف ہے (الواحد والاثنین) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (الترکیب) مصدر کے (مع) ظرف زماں منصوب لفظاً" مضاف (عشرون) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اخوان) جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" زوالحال (الی) حرف جار (تسعین) جمع ذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (منتہیہ") اسم فاعل مقدر کے (منتہیہ") اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے

نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حل ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حل سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف ہے (عشرون) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مع) مضاف (کلام) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (الترکیب) مصدر کا (الترکیب) مصدر اپنے مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (طریق) مضاف کا (طریق) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتداء مسنن ہے معنی شرط کو (علی) حرف جار (بیتل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (العطف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے ابتداء کی مسنن ہے معنی جزاء کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"فان كان التمييز مذكراً فتقول في تركيب الواحد والاثنين لافي غيرهما احد وعشرون رجلاً" و انشان و عشرون رجلاً بتذكير الجزء الاول"  
ترجمہ: پس اگر تیز مذکر ہو تو پس تو کے واحد اور اثنین کی ترکیب میں ان کے علاوہ میں نہیں احد و عشرون رجال ۲۱ مرد اور اثنان عشرون رجلاً ۲۲ مرد، جز اول کو مذکر لاکر۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلہ (ان) حرف شرط و جازم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجرور محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرنا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (التعمین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (ذکر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (تقول) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل اور جزم بھی اس جگہ پر جائز ہے (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (نی) حرف جار (ترکیب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الواحد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (ترکیب) مصدر مضاف کا (ترکیب) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (لا) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً"

مضاف (۴) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر برف لفظ متعلق ہے فعل کے فعل کے اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قول ہوا (احد و عشرون) دونوں جز مبنی بر علامت رفع منصوب محلا "اسم عدد مبہم ممیز طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (رجلا) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" تمیز ہے ممیز کی ممیز اپنی تمیز سے مل کر منصوب محلا "اسم عدد مبہم ممیز طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (رجلا)" اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" تمیز ہے ممیز کی ممیز اپنی تمیز سے مل کر منصوب محلا "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب محلا "ذوالجل (ب) حرف جار (تذکیر) مصدر متعدي رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (الجزء) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (تذکیر) مصدر مضاف کا (تذکیر) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ثابتین) اسم فاعل محذوف کے (ثابتین) اسم تشبیہ ذکر منصوب لفظاً" اسم فاعل (۴) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالجل کا ذوالجل اپنے حال سے مل کر منصوب محلا" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"وان كان التمييز مؤنثا فتقول احلى و عشرون امرأة" و اثنتان و عشرون امرأة" بتأنيث الجزء الاول  
ترجمہ: اگر تمیز مؤنث ہو تو پس تو کے احدی و عشرون امرأة ۲۱ عورتیں اور اثنان و عشرون امرأة ۲۲ عورتیں جزء اول کو مؤنث لاکر۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (ان) حرف شرط و جازم (کلن) فعل ماضی معلوم واحد ذکر عاتب مبنی صحیح مجرور محلا "فعل از افضل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (التعمیر) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (مؤنثا) اسم مفرد منصوب صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (تقول) فعل مضارع معلوم واحد ذکر مخاطب صحیح مجرور از مخاطب بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل اور جزم بھی اس جگہ پر جائز ہے (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (احدی و عشرون) مبنی بر



رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ (مع) طرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (عشرین) از مطقات جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (ترکیب) مصدر مضاف کا (ترکیب) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق مقدم ہے (تقول) فعل مؤخر کا (تقول) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (نی) حرف جار (التمییز) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (المذکر) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (تقول) فعل کے (تقول) فعل اپنے فاعل اور دونوں مسطوقوں سے مل کر قول ہوا (ثلاثة و عشرون) مثنیٰ بر علامت رفع باعتبار حکایت منصوب محلاً" اسم عدد مبہم میتر طلب کرتا ہے تیز مفرد منصوب کو (رجلاً" اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے تیز ہے میتر کی میتر اپنی تیز سے مل کر منصوب محلاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (تانیہ) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الجزء) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (تانیہ) مصدر مضاف کا (تانیہ) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (ثابتین) اسم فاعل محذوف کے (ثابتین) اسم تشبیہ مذکر منصوب لفظاً" اسم فاعل (ها) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔



”و فی التمییز المؤمنت تقول ثلاث و عشرون امرأة“ و اربع و عشرون امرأة” بتذکیر الجزء الاول“  
ترجمہ: اور مؤنث کی تمیز میں تم کو کہنا چاہئے ثلاث و عشرون امرأة ۲۳ عورتیں اور اربع و عشرون امرأة ۲۴ عورتیں جزو اول کو  
ذکر لانے کے ساتھ۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (التمییز) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ  
فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”موصوف (المؤنث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے  
نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً“  
مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق مقدم ہے (تقول) فعل مؤخر کا (تقول) فعل مضارع معلوم واحد مذکر  
مخاطب صحیح مجرور ہماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل  
(انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (ثلاث و عشرون) مبنی بر علامت رفع باعتبار حکایت منصوب محلاً“ اسم عدد بسم میتر طلب  
کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (امرأة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی  
کے منصوب لفظاً“ تمیز ہے میتر کی میتر اپنی تمیز سے مل کر منصوب محلاً“ معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اربع و عشرون) مبنی بر  
علامت رفع باعتبار حکایت منصوب محلاً“ اسم عدد بسم میتر طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (امرأة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع  
ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً“ تمیز ہے میتر کی میتر اپنی تمیز سے مل کر  
منصوب محلاً“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب محلاً“ ذوالحال (ب) حرف جار (تذکیر)  
مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف (الجزء) معرف باللام  
اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ موصوف (الاول)  
معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ صفت  
ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً“ مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے (تذکیر) مصدر مضاف کا (تذکیر)  
مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر  
متعلق ہے (ثابتیں) اسم فاعل محذوف کے (ثابتیں) اسم تشبیہ مذکر منصوب لفظاً“ اسم فاعل (ح) ضمیر درو مستتر مرفوع  
محلاً“ فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً“ حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے  
حال سے مل کر منصوب محلاً“ مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”و علی هذا القیاس الی تسع و تسعین“

ترجمہ: اور اسی طریقہ پر ترکیب س و ستمین تک ہوگی

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (طی) حرف جار (هذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر  
طرف مستقر مرفوع محلاً“ خبر مقدم (القیاس) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو  
لفظی کے مرفوع لفظاً“ مصدر (الی) حرف جار (تسع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر

ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تسعین) از ملحقات تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (القیاس) مصدر کے (القیاس) مصدر اپنے متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتداء موخر ہے خبر مقدم کا ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال

"و علیٰ هذا القیاس الی تسع و تسعین"

یہ احتمال صحیح نہیں ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (علیٰ) حرف جار (هذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (قس) فعل مقدر کے (قس) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (القیاس) پر یہ جو (ال) ہے یہ توین کے عوض آیا ہے (قیاساً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول مطلق (الیٰ) حرف جار (تسع) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تسعین) از ملحقات تشبیہ مجرور لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (قس) فعل کے (قس) فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور دونوں مطعونوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

تیسرا احتمال

"و علیٰ هذا القیاس الی تسع و تسعین"

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (علیٰ) حرف جار (هذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مجرور محلاً "موصوف (القیاس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق (تقول) فعل مقدر کے (تقول) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً "فعل

(انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (الیٰ) حرف جار (تسع) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تسعین) از ملحقات تشبیہ مجرور لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور دونوں مطعونوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

چوتھا احتمال

”و علیٰ هذا القیاس المركبة الباقية الی تسع و تسعین“

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (علیٰ) حرف جار (هذا) اسم اشارہ یعنی برسکون مجرور محلاً ”موصوف (القیاس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً“ خبر مقدم (المركبة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ موصوف (الباقية) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ اسم فاعل (حی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ((الیٰ) حرف جار (تسع) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً“ معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تسعین) از ملحقات تشبیه مجرور لفظاً“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ مبتداء موخر ہے خبر مقدم کا مبتداء موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”والثانی کم“

ترجمہ: اور دو سرا اسم کم ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثانی) معرف باللام اسم مقوم رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مرفوع تقدیر“ مبتداء (کم) مراد لفظ مرفوع محلاً“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”معناه عدد مبہم“

ترجمہ: اس کے معنی مبہم عدد کے ہیں۔

ترکیب ○ (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مرفوع تقدیر“ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر“ مبتداء (عدد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ موصوف (مبہم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و هو علیٰ نوعین“

ترجمہ: اور اس کی قسمیں ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً“ مبتداء (علیٰ) حرف جار (نوعین) اسم تشبیه رفع ساتھ الف

ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا چار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"احدهما استفهامیۃ ان کان متضمننا" لمعنی الاستفہام

ترجمہ: ایک ان دونوں میں استفہامی سے ہے اگر استفہام کے معنی پر مشتمل ہو۔

ترکیب ○ (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ہما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (استفہامیۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عوض ہے جزائے مقدم کے یا دال بر جزاء (ان) حرف شرط و جازم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی بر فتح مجرور محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (متضمننا) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (لام) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیراً مضاف (الاستفہام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً مجرور ہے جار کا اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے دال بر جزاء کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"و هو ینصب التعمییز"

ترجمہ: اور یہ کم استفہامیہ اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع محلاً مبتداء (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (التعمییز) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل کم رجلاً ضربتہ"

ترجمہ: جیسے کتنے آدمی ہیں مرووں کی قسم کے جنہیں تم نے مارا ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (کم) استفہامیہ جنی بر سکون مرفوع محلاً" بسم میتر طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (رجلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تمیز ہے میتر کی میتر اپنی تمیز سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (ضرت) فعل باضی معلوم واحد متکلم جنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (د) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و الثانی خبریۃ ان لم یکن متضمناً لمعنی الاستفہام"  
ترجمہ: اور دوسرا کم خبریہ ہے اگر استفہام کے معنی کو مضمّن نہ ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثانی) معرف باللام اسم مقوم رفع ساتھ ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مرفوع تقدیراً" مبتداء (خبریۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عوض ہے جزاء کے یا دال بر جزاء (ان) حرف شرط و جازم (لم یکن) فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ مجزوم لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (لم یکن) فعل ناقص کا (متضمناً) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (لام) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیراً" مضاف (الاستفہام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لم یکن) فعل ناقص کی (لم یکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے جزائے مقدم کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرط ہوا۔

"و هو ینصب التمییز ان کان بینہما فاصلۃ"  
ترجمہ: اور وہ تمیز کو نصب دیتا ہے اگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتداء (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (التمییز) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ

کسرو لفظی کے منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عوض ہے جزاء کے یا وال بر جزاء (ان) حرف شرط و جازم (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجزوم محلاً فعل از افعال تامہ (ین) ظرف زمان منصوب لفظاً مضاف (ما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول فیہ (کن) فعل تام (فاصلۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (کلمۃ) موصوف محذوف کی (کلمۃ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے (کن) فعل تام (کن) فعل تام اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے دل بر جزاء کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”مثل کم عندی رجلاً“

ترجمہ: جیسے میرے پاس بہت سے مردوں کی قسمیں ہیں۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (کم) خبریہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً ”بمبم بمبم طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (رجلاً)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً ”تمیز ہے تمیز کی تمیز اپنی تمیز سے مل کر مرفوع محلاً ابتداء (عندی) ظرف مکان مضاف طرف (ی) متکلم کے تینوں اعراب تقدیری ہیں بسبب تعذر و کسرواں بمناسبت (ی) منصوب تقدیراً مفعول فیہ ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کا (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر رد و مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجزوم محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کلاشل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے ابتداء محذوف (مثلاً) کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و ان لم تکن بینہما فاصلۃ فتیمیئزہ مجرور بالاضافۃ الیہ“

ترجمہ: اور اگر کم خبریہ اور اس کی تمیز کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو اس کی تمیز مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگی۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (لم تکن) فعل مضارع نفی مجد معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجزوم لفظاً فعل از افعال تامہ (ین) ظرف مکان منصوب لفظاً مضاف (ما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول فیہ ہے (لم تکن) فعل تام (فاصلۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل ہے (لم تکن) فعل تام (لم تکن) فعل تام اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (تیمیئز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف

الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (مجرور) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ب) حرف جار (الاضافۃ) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مصدر (الی) حرف جار (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (الاضافۃ) مصدر کے (الاضافۃ) مصدر اپنے متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مجرور) اسم مفعول کے (مجرور) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل کم رجل ضربت و کم غلمان اشتریت"

ترجمہ: جیسے کتنے ہی مردوں کو میں نے مارا اور کتنے ہی غلاموں کو میں نے خریدا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (کم) خبریہ برائے انشائے تکثیر مبنی بر سکون منصوب محلاً" مہم میتر مضاف (رجل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ تیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر منصوب محلاً" مفعول بہ مقدم (ضربت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بازر (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ و انشائیہ ہر دو اختلاف جت بشرح مذکور سابق انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (کم) خبریہ مبنی بر سکون منصوب محلاً" اسم عدد مہم میتر مضاف طلب کرتا ہے تیز مجموع مجرور کو (غلمان) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ تیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر منصوب محلاً" مفعول بہ مقدم (اشتریت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بازر (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء معذوف (مثالہ) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و الثالث کابین"

ترجمہ: اور تیسرا اسم کابین ہے

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثالث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (کابین) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

و هو مرکب من کاف التشبيه وای

ترجمہ: وہ مرکب ہے کاف تشبیہ اور ای سے

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (مرکب) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (من) حرف جار (کاف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور

لفظاً" مضاف (التشبيه) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیه ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیه سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ای) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مرکب) اسم مفعول کے (مرکب) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

لکن المراد منه عدد مبهم لا المعنى التركيبی

ترجمہ لیکن اس سے عدد مبہم مراد ہوتا ہے معنی ترکیبی مراد نہیں ہوتی ترکیب

(لکن) حرف از حروف شبہ بالفعل برائے استدراک طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ال) . معنی الذی (مراد) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (من) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر منصوب محلاً" اسم ہے (لکن) شبہ بالفعل کا (عدد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً موصوف (بہم) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف علیہ (لا) حرف عاطفہ (المعنى) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مرفوع تقدیراً" موصوف (الترکیبی) معرف باللام مصدر متعدی نسبت ہے (ن) مشدود کی طرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع تقدیراً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (لکن) شبہ بالفعل کی (لکن) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا



”مثل کابین رجلا“ لقیّت

ترجمہ: جیسے میں نے کتنے ہی مردوں سے ملاقات کی۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (کابین) خبریہ مبنی بر سکون منصوب محلاً“ مبہم ممیز طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (رجلا)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً“ تمیز ہے ممیز کی ممیز اپنی تمیز سے مل کر منصوب محلاً“ مفعول بہ مقدم (لقیّت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی سکون مرفوع محلاً“ فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وقد یکون متضمنا“ لمعنی الاستفہام

ترجمہ: اور کبھی یہ کابین استفہام کے معنی کو شامل ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (متضمنا)“ اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً“ اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (لام) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیر“ مضاف (الاستفہام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً“ خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”نحو کابین رجلا“ عندک

ترجمہ: جیسے تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (کابین) استفہامیہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً“ مبہم ممیز طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (رجلا)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً“ تمیز ہے ممیز کی ممیز اپنی تمیز سے مل کر مرفوع محلاً“ مبتداء (عند) ظرف مکان منصوب لفظاً مضاف (ک) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف

کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا " خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلا " مضاف الیہ ہے (نہی) مضاف کا (نہی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً " خبر ہے بتداء محذوف "مثلاً" کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"والرابع کذا"

ترجمہ: اور چوتھا اسم کذا ہے

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الرائع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "بتداء (کذا) اسم کنیہ بنی بر سکون مرفوع محلا " خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"وہو مرکب من کاف التشبیہ و ذالسم الاشارة

ترجمہ: وہ مرکب ہے کاف تشبیہ اور ذال اسم اشارہ سے مرکب ہے۔

(واو) حرف عاطفہ (ہو) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلا "بتداء (مرکب) اسم مفرد منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً " اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا " نائب فاعل (من) حرف جار

(کاف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً " مضاف (التشبیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً " مضاف الیہ ہے

مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً " معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ذا) اسم اشارہ بنی بر سکون مجرور محلا " موصوف (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً " مضاف (الاشارة)

معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً " مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً " صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلا " معطوف ہے معطوف

علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً " مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً " خبر ہے (ہو) بتداء کی (ہو) بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ

خبریہ ہوا

"والکن المراد منه عدد مبہم"

ترجمہ: لیکن اس سے عدد مبہم مراد ہوا کرتا ہے۔

(واو) حرف عاطفہ یا اعتراضیہ (کن) حرف از حروف شبہ بالفعل برائے استدراک طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ال) (معنی الذی) اسم موصول (مراو) اسم مفرد منصرف صحیح واحد ذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی

کے منصوب لفظاً " اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا " نائب فاعل (من) حرف جار (ہو) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا " مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ

ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر منصوب محلا "اسم ہے (کنن) مشبہ بالفعل کا (عدی) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (بمسم) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (موصو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (کنن) مشبہ بالفعل کی (کنن) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"ولا یكون متضمنا" لمعنی الاستفہام  
ترجمہ: اور وہ استفہام کے معنی کو مضمّن نہیں ہوتا۔

(واو) حرف عاطفہ (لا یكون) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (موصو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "اسم ہے (لا یكون) فعل ناقص کا (متضمنا) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب اسم فاعل (موصو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (لام) حرف جار (معی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مجرور تقدیر "مضاف (الاستفہام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف نحو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (لا یكون) فعل ناقص کی (لا یكون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ صلیہ خبریہ ہوا

"مثل عندی کنار جلا"

ترجمہ: جیسے میرے پاس اتنے عدد ہیں مروں کے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (عندی) ظرف مضاف طرف (ی) متکلم کے ظرف مستقر مرفوع محلا "خبر مقدم (کذا) اسم کنلیہ مبنی بر سکون مرفوع محلا "اسم عدد بمسم میز طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (رجلا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "تمیز ہے میز کی میز اپنی تمیز سے مل کر مرفوع محلا "بتداء ہے خبر مقدم کا بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے بتداء محذوف "مثلاً" کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم النوع الثامن - بحمد اللہ تعالیٰ

## النوع التاسع

”النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال“

ترجمہ: (عوامل ساعیہ کی) نویں قسم ایسے اسم ہیں جن کا نام اسماء افعال ہے۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً” موصوف (التاسع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً” صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً” مبتداء (اسماء) جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ

لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً” موصوف (تسمی) فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب معتل الئی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً” فعل (می) ضمیر درو مشترک مرفوع محلاً” نائب فاعل (اسماء) جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً” مضاف (الافعال) معرف باللام جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً” مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً” مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً” صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً” خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وانما سمیت باسماء الافعال لان معنیها افعال“

ترجمہ: اور ان اسماء کا نام افعال اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے معنی فعل کے ہوتے ہیں۔

ترکیب ○ (دلو) حرف عاطفہ (انما) کلمہ حصر مرکب از (ان) اور (ما) کافہ عن العمل لا محل لها من الاعراب) (سمیت) فعل باضی مجہول واحد مؤنث غائب مثنی بر سکون مرفوع محلاً” فعل متعدی بدو مفعول (می) ضمیر درو مشترک مرفوع محلاً” نائب فاعل (ب) حرف جار زائدہ (اسماء) جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً” منصوب معنی” مضاف (الافعال) معرف باللام جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً” مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب معنی مفعول بہ ہے (سمیت) فعل کا (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (محلانی) اسم مقصود جمع مکرر رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مرفوع لفظاً” مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً” مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً” اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (افعال) جمع مکرر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً” خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً” مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (سمیت) فعل کے (سمیت) فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”وہی تسمیة سنة منها موضوعة للامر الحاضر و تنصب الاسم على المفعولية و ثلاثة منها موضوعة للفعل

الماضی وترفع الاسم بالفاعلية

ترجمہ: اور یہ نو (۹) (اسماء افعال ہیں) چھ (۶) ان میں سے امر حاضر کیلئے وضع کئے گئے ہیں اور وہ اسم کو نصب دیتے ہیں مفعولیت کی بناء پر اور تین (۳) ان میں سے فعل ماضی کیلئے وضع کئے گئے ہیں اور وہ اسم کو رفع دیتے ہیں فاعلیت کی بناء پر۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (می) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلا "ابتداء (تسعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے

نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم عدد مبم میز مبدل منہ (سنة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ

لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (من) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً

"ابتداء (موضوعه) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے

مرفوع لفظاً "اسم مفعول (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (لام) حرف جار (الامر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع

ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (الحاضر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح

رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے

اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً

"مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ

ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تنصب) فعل مضارع

معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از مناز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع

لفظاً "فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح

لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ (علی) حرف جار (المفعولیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ

ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق

ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے (سنة منها) موضوعه

للامر الحاضر) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ثلاثة) اسم

مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (من) حرف جار (ھا)

ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی

صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتداء (موضوعه) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی

کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (لام) حرف جار (الفعل) معرف باللام

اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (الماضی) معرف

باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیر "صفت ہے موصوف کی

موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول

اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (ترفع) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث نائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" مفعول بہ (ب) حرف جار (الفاعلیۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معطوف ہے (ستۃ منها موضوعۃ للامر الحاضر و تنصب الاسم علی المفعولیۃ) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مرفوع محلاً" بدل البعض ہے (تسعۃ) مہمل منہ کا (تسعۃ) مہمل منہ اپنے بدل البعض سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ہی) ابتداء کی (ہی) ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال۔۔۔

"وہی تسعۃ"

ترجمہ اور یہ تو (اسلام افضل ہیں)

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (ہی) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع محلاً" ابتداء (تسعۃ) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ستۃ منها موضوعۃ للامر الحاضر و تنصب الاسم علی المفعولیۃ"

ترجمہ چھ (۶) ہیں ان میں سے جو امر حاضر کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور نصب دیتے ہیں اسم کو مفعولیت کی بنا پر۔

ترکیب ○ (ستۃ) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" موصوف (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستتر مرفوع محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتداء (موضوعۃ) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (لام) حرف جار (الامر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" موصوف (الحاضر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر مجرور لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث نائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً" فعل (ہی) ضمیر درو مستتر

مرفوع محلا "فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" مفعول بہ (علی) حرف جار (المفعولیۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"احدھاروید"

ترجمہ: ان میں سے ایک روید ہے۔

ترکیب ○ (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (روید) مراد لفظ مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فانہ موضوع لامہل"

ترجمہ: کیونکہ وہ اہل کے معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (لام) حرف جار (امہل) مراد لفظ مجرور محلا" مجرور ہے جار کا منصوب معنی "مفعول بہ جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وہو یقع فی اول الکلام"

ترجمہ: اور یہ روید اول کلام میں واقع ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلا" مبتداء (یقع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (نی) حرف جار (اول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الکلام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل روید زیدا ای امہل زیدا“

ترجمہ: جیسے روید زیدا یعنی زید کو تو مملت دے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (روید) اسم فعل معنی ”اعمل“ کے ہے (امہل) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع عملاً ”فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً“ قائل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فیلہ و نزد بیضی اسمیہ بر تقدیر انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (اعمل) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع عملاً فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً“ قائل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فیلہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسراہنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور عملاً ”مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و ثانیہا بلہ“

ترجمہ: اور دو سرا (اسم فعل) بلہ ہے

ترکیب ○ (دو) حرف عطفہ (مطلق) اسم مقوم رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مرفوع تقدیر ”مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر ”مبتداء (بلہ) مراد لفظ مرفوع عملاً ”خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فانہ موضوع لدع“

ترجمہ: کیونکہ وہ دع (جوڑو) کے معنی کیلئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب عملاً ”اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً ”نائب فاعل (لام) حرف جار (دع) مراد لفظ مجرور عملاً ”مجرور ہے جار کا (منصوب معنی مفعول بہ ہے) جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور منصوب معنی مفعول بہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔



”مثل بلہ زید ای دع زیداً“

ترجمہ: جیسے بلہ زیداً یعنی چھوڑ تو زید کو۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (بلہ) اسم فعل (معنی (دع) کے ہے (دع) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلا فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“  
 فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ و نزد بعضی اسمیہ بہر تقدیر انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (دع) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً“ فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و نال شہادونک“

ترجمہ: اور تیرا (اسم فعل) دو تک ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (نالک) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”مبتداء (دو تک) مراد لفظ مرفوع محلاً“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فانہ موضوع لخذ“

ترجمہ: کیونکہ وہ خذ کے معنی دینے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلہ (ان) حرف از حرف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً ”اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ نائب فاعل (لام) حرف جار (خذ) مراد لفظ مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا (منصوب معنی مفعول بہ ہے) جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور منصوب معنی مفعول بہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل دونک زیداً ای خذ زیداً“

ترجمہ: جیسے دو تک زیداً یعنی زید کو تو پکڑ۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کی مرفوع لفظاً "مضاف (دو تک) اسم فعل . معنی خذ کے ہے (خذ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ("زیداً") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ و نذر بعضے اسمیہ بہر تقدیر انشائیہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (خذ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع فاعل ("زیداً") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ورابعها علیک"

ترجمہ: اور چوتھا (اسم فعل) علیک ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (رابع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (علیک) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فانہ موضوع لالزم"

ترجمہ: کیونکہ وہ (علیک) الزم کے معنی دینے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصییدہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (لام) حرف جار (الزم) مراد لفظ مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا (منصوب معنی مفعول بہ ہے) جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لفظ متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور منصوب معنی مفعول بہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل علیک زیداً" ای الزم زیداً"

ترجمہ: جیسے علیک زیداً" یعنی زید کو لازم پکڑ

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (علیک) اسم فعل الزم کے معنی میں ہے (الزم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع

مخلاً "فاعل (زیداً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ و نزد بعضیہ اسمیہ بہر تقدیر انشائیہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (الزم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع مخلاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع مخلاً "فاعل (زیداً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور مخلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف مثالیہ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و خامسها حیہل"

ترجمہ: اور پانچواں (اسم فعل) حیہل ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (خاس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور مخلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (حیہل) مراد لفظ مرفوع مخلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فانہ موضوع لایت"

ترجمہ: کیونکہ (حیہل) (ایت) کے معنی دینے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیذہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب مخلاً "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع مخلاً "نائب فاعل (لام) حرف جار (ایت) مراد لفظ مجرور مخلاً "مجرور ہے جار کا (منصوب معنی "مفعول بہ ہے) جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل حیہل الصلوٰۃ ای ایت الصلوٰۃ"

ترجمہ: جیسے حیہل الصلوٰۃ یعنی آتو نماز کیلئے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (حیہل) اسم فعل (ایت) کے معنی میں ہے (ایت) فعل امر حاضر معلوم مبنی بر سکون مرفوع مخلاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع مخلاً "فاعل (الصلوٰۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ و نزد بعضیہ اسمیہ بہر تقدیر انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف

تفسیر (ایت) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الصلوة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وسادسہاھا"

ترجمہ: اور چھٹا (اسم فعل) حا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (سادس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء (ھا) مراد لفظ مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فانہ موضوع لخذ"

ترجمہ: کیونکہ وہ (ھا) خذ کے معنی دینے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلہ (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (لام) حرف جار (خذ) مراد لفظ مجرور محلا" مجرور ہے جار کا (منصوب معنی مفعول بہ ہے) جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور منصوب معنی مفعول بہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل ہازیدا" ای خذزیدا"

ترجمہ: جیسے (ھا) زیدا" یعنی پکڑ تو زید کو۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ھا) اسم فعل (خذ) کے معنی میں ہے (خذ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (زیدا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ و نزد بعضے اسمیہ بہر تقدیر انشائیہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (خذ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلا فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا فاعل (زیدا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی

کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسراپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا "خبر ہے مبتداء محذوف (مثال) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وقد جاء فيها ثلث لغات هاء بسكون الهمزة و هاء بزيادة الهمزة المكسورة و هاء بزيادة الهمزة المفتوحة" ترجمہ: اور تحقیق آئی ہیں اس حائیں تین لغتیں (یعنی تین طرح بولا گیا ہے) ہا ہمزہ کے سکون کے ساتھ اور ہا آخر میں ہمزہ مکسورہ کی زیادتی کے ساتھ اور ہا آخر میں ہمزہ مفتوحہ کی زیادتی کے ساتھ۔

ترکیب ○ (واو) حرف ایسنافیہ (قد) حرف تحقیق (جاء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (فی) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (ثلاث) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظا اسم عدد مجہم ممیز مضاف (لغات) جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "مضاف الیہ تمیز ہے ممیز مضاف کی ممیز مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مرفوع لفظا "مبدل منہ (ہاء) مراد لفظ مرفوع محلا "ذوالحال (ب) حرف جار (سکون) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے

نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "مضاف (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا "حال ہے ذوالحال کلذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلا "

معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ہاء) مراد لفظ مرفوع محلا "ذوالحال (ب) حرف جار (زیادۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "مضاف (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ

لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "موصوف (المکسورة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "اسم مفعول (ہی) ضمیر رو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظا "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلا "معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (ہاء)

مراد لفظ مرفوع محلا "ذوالحال (ب) حرف جار (زیادۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "مضاف (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "موصوف (المفتوحة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا "اسم مفعول (ہی) ضمیر رو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم

مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مرفوع محلاً بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے (جاء) فعل کا (جاء) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”ولا بدلهذه الاسماء من فاعل و فاعلها ضمير المخاطب المستتر فيها“

ترجمہ: اور ان اسماء سے کیلئے فاعل ضروری ہے اور ان کا فاعل ضمیر مخاطب ہے جو ان میں مستتر ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف اسینافیہ (لا) نئی جنس کا ہے طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (بد) اسم نکرہ مفرد مثنیٰ برقع منصوب محلاً اسم ہے (لا) نئی جنس کا (لام) حرف جار (منہ) اسم اشارہ مثنیٰ بر کسرہ مجرور محلاً موصوف (الاسماء) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر اول ہے (لا) نئی جنس کی (من) حرف جار (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے ثانی ہے (لا) نئی جنس کی (لا) نئی جنس کا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (ضمیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (المخاطب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً موصوف (المستتر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (نی) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا۔

”و ثلاثة منها موضوعة للفعل الماضي و ترفع الاسم بالفاعلية“

ترجمہ: اور ان میں سے تین فعل ماضی کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور یہ اسم کو رفع دیتے ہیں فاعلیت کی بناء پر۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ثلاثة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً موصوف (من) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع

محلّا" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتداء (موضوعۃ) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلّا" نائب فاعل (لام) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً موصوف (الماضی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیراً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ترفع) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ظہار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلّا" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (ب) حرف جار (الفاعلیۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے جملہ معطوف ہوا۔

"احدها هیہات"

ترجمہ: ایک ان میں سے "ھیہات" ہے۔

ترکیب ○ (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلّا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتداء (ھیہات) مراد لفظ مرفوع محلّا" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فانہ موضوع لبعده"

ترجمہ: کیونکہ وہ بعد کے معنی دینے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلّا" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ھو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلّا" نائب فاعل (لام) حرف جار (بعده) مراد لفظ مجرور محلّا" مجرور ہے جار کا (منصوب معنی "مفعول بہ ہے) جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل (اور) منصوب معنی مفعول بہ) اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل ہیہات زید ای بعد زید“

ترجمہ: جیسے ہیہات زید یعنی دور ہو ا زید۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (صیغہ) اسم فعل (بعد) کے معنی میں ہے (بعد) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (بعد) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یا اسمیہ بہ حسب اختلاف اقوال ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و ثانیہا سرعان“

ترجمہ: اور دو سرا (اسم فعل) سرعان ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ثانی) اسم مقوص رفع ساتھ ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر ”مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر ”مبتداء (سرعان) مراد لفظ مرفوع محلاً“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فانہ موضوع لسرع“

ترجمہ: کیونکہ وہ سرع کے معنی دینے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً ”اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم مفعول (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً“ نائب فاعل (لام) حرف جار (سرع) مراد لفظ مجرور محلاً ”مجرور ہے جار کا (منصوب معنی ”مفعول بہ ہے) جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل (اور) منصوب معنی ”مفعول بہ) اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل سرعان زید ای سرع زید“

ترجمہ: جیسے سرعان زید یعنی زید نے بہت جلدی کی۔



ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (سرعان) اسم فعل (سرع) کے معنی میں ہے (سرع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (سرع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ یا اسمیہ خبریہ بہ حسب اختلاف اقوال ہو کر تفسیر ہے ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وئالشاہستان"

ترجمہ: اور تیسرا (اسم فعل) شتان ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (عالت) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء (شتان) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فانہ موضوع لافترق"

ترجمہ: کیونکہ وہ افترق کے معنی دینے کیلئے وضع کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غیبیہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (موضوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (لام) حرف جار (افترق) مراد لفظ مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا (منصوب معنی "مفعول بہ ہے) جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل (اور منصوب معنی "مفعول بہ) اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل شتان زید و عمرو ای افترق زید و عمرو"

ترجمہ: جیسے شتان زید و عمرو یعنی زید اور عمرو جدا ہوئے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (شتان) اسم فعل (افترق) کے معنی میں ہے (افترق) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (زید) اسم مفرد منصرف

صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (الفتوح) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی برقع مرفوع محلاً "فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ یا اسمیہ خبریہ بہ حسب اختلاف اقوال ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم النوع التاسع بحمد الله تعالى

## النوع العاشر

"النوع العاشر الافعال الناقصة"

ترجمہ: دسویں نوع (عوامل ساعیہ کی) افعال ناقصہ ہیں۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (العاشر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (الناقصة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وانما سمیت ناقصة" لانها لا تکون بمجرد الفاعل کلانا تاماً"

ترجمہ: اور بے شک ان افعال کا نام افعال ناقصہ اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ تنها فاعل کی ساتھ کلام تام نہیں ہوتے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (انما) کلمہ حصر مرکب از (ان) اور (ما) کافہ عن العمل لا محله لہا من الاعراب (سمیت)

فعل ماضی جمول واحد مؤنث غائب جنی برقع مرفوع محلاً "فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "تائب فاعل (ناقصة) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "صفت ہے (افعالاً) موصوف محذوف کی

(افعالاً) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول بہ (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہا) ضمیر منصوب متعلیٰ کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (لا انکون) فعل مضارع منفی معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "ذوالحال (ب) حرف جار (مجرد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً "اسم ہے (لا انکون) فعل ناقص کا (کلاماً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "موصوف (تاما) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "خبر ہے (لا انکون) فعل ناقص کی (لا انکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاول مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (سمیت) فعل کے (سمیت) فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"فلا تخلو عن نقصان"

ترجمہ: لہذا یہ افعال نقصان سے خالی نہیں ہوتے کیونکہ یہ خالی فاعل سے کلام تام نہیں ہوتے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیہ (لاتخلو) فعل مضارع منفی معلوم واحد مؤنث غائب متعلیٰ واوی مجرد از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً "فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (عن) حرف جار (نقصان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے "اذالم تکن بمجرور الفاعل کلاماً تاماً" شرط محذوف کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"وہی تدخل علی الجملة الاسمية ای المبتداء والخیر"

ترجمہ: اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں یعنی مبتداء اور خبر پر۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہی) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً "مبتداء (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (علی) حرف جار (الجملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی

کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الاسمیة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف علیہ یا مبدل منہ (ای) حرف تفسیر (المبتداء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" یا عاطف بیان ہے یا بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے یا عطف بیان اپنے معطوف علیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (تدخل) فعل کے (تدخل) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(ای) حرف تفسیر کا مائل اور مابعد مفرد ہوں تو نحوی ما قبل کو معطوف علیہ یا مبدل منہ کہتے ہیں اور مابعد کو عطف بیان یا بدل اس واسطے دونوں کے اعراب میں موافقت واجب ہے ورنہ کتب نحو میں کوئی باب ایسا نہیں جس میں مفسر اور تفسیر کے احکام بیان کئے گئے ہوں۔

"فترفع الجزء الاول منها ویسمی اسمها وتنصب الجزء الثاني منها ویسمی خبرها"

ترجمہ: پہلے جز کو رفع دیتے ہیں اس کا نام اسم رکھا جاتا ہے اور جزء ثانی کو نصب دیتے ہیں جو ان کی خبر کہلاتی ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف فعلیہ (ترفع) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ و نون تاکید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الجزء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" ذوالحال (من) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے

فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یسمی) فعل مضارع مجهول واحد مذکر غائب متصل الفی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے

معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الجزء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً"

موصوف (الثانی) معرف باللام اسم مقوم رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسروہ کے منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" ذوالحال (من) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور و محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ نطیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (بیسمی) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب معتل الفی مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً" فعل (ھو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (خبر) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ نطیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا۔

"وہی ثلاثة عشر فعلاً"

ترجمہ: اور یہ تیرہ (۱۳) فعل ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ھی) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (ثلاثة عشر) مرکب بتائی دونوں جزئی بر فتح مرفوع محلاً" اسم عدد مجہم تمیز طلب کرتا ہے تمیز مفرد منصوب کو (فعلاً)" اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" تمیز ہے تمیز کی تمیز اپنی تمیز سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"الاول كان وهي قد تكون زائدة"

ترجمہ: پہلا (فعل ناقص) کان ہے یہ کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے۔

تشریح = "کان" کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ "کان" لفظوں میں ہو یا عبارت و لفظوں میں ہو یا چاہے عبارت و لفظوں میں نہ ہو بہر صورت معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی بلکہ صرف عبارت کی خوبصورتی کے لئے لایا جاتا ہے اس کی تفصیل "مختصر العلی" سے معلوم ہوگی کہ عبارت کی خوبصورتی کے لئے "کان" کہاں کہاں زائد لایا جاسکتا "کان" زائدہ کی مثل "کیف تکلم من كان في المهد صبياً"۔

ترکیب ○ (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (کان) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ھی) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (قد) برائے تقلیل (کون) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ و نون تائید رفع ساتھ

ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے (تکون) فعل ناقص کا (زائدہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً اسم فاعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر ہے (تکون) فعل ناقص کی (تکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا۔

”مثل ان من افضلهم کان زیداً“

ترجمہ: جیسے بہترین شخص ان میں زید ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ان) حرف از حرف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (من) حرف جار (افضل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (ہم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر مقدم ہے (ان) شبہ بالفعل کی (کن) زائدہ لا محملہ لہا من الاعراب (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً اسم مؤخر ہے (ان) شبہ بالفعل کا (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتویل مفرد ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و حینئذ لا تعمل“

ترجمہ: اور اس وقت یہ کوئی عمل نہیں کرتا (حینئذ) یہ مخفف ہے (حینئذ کان کذا) جملہ (کان کذا) کو حذف کر کے اس کے عوض اذ کی ذال پر تین مکسورہ دے دی گئی ہے اس تین کو تین عوض کہتے ہیں

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حین) ظرف زمان منصوب لفظاً مضاف (از) مبنی بر سکون مجرور محلاً مضاف الیہ مضاف (اور) (از) پر جو تین ہے یہ ”کانت زائدہ“ جملہ مضاف الیہ محذوف کے عوض ہے (از) مضاف اپنے (کانت زائدہ) مضاف الیہ محذوف سے مل کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا (حین) مضاف اپنے (از) مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول فیہ مقدم (لا تعمل) فعل مضارع منفی معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ظہار بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے (لا تعمل) فعل کا (لا تعمل) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”وقد تكون غير زائدة“

ترجمہ: اور کبھی (کلن) غیر زائدہ بھی ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قد) حرف تقلیل (تكون) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً” فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً” اسم ہے (تكون) فعل ناقص کا (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً” مضاف (زائدة) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً” مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً” خبر ہے (تكون) فعل ناقص کی (تكون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”وہی تجسیء علی معنیین ناقصہ و تامہ“

ترجمہ: اور وہ کلن دو معنی کیلئے آتا ہے ایک ناقصہ اور دوسرا تامہ۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہی) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع محلاً” مبتداء (تجسیء) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً” فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً” فاعل (علی) حرف جار (معنیین) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً” مبدل منہ (ناقصہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً” معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تامہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً” معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً” بدل الکل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مجرور لفظاً” مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً” خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال

”وہی تجسیء علی معنیین“

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہی) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع محلاً” مبتداء (تجسیء) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً” فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً” فاعل (علی) حرف جار (معنیین) اسم تشبیہ مجرور لفظاً” مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً” خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ترکیب ○ ناقصة) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً ”خبر ہے“ ”احدھا“ ”بتداء محذوف کی (احدھا) بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (وار) حرف عطفہ (تامة) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً ”خبر ہے (ٹا نیما) بتداء محذوف کی (ٹا نیما) بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

”فالناقصة تجسیء علی معنیین“

ترجمہ: بحر کن ناقصہ دو معنوں کے لئے آتا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نفیہ (الناقصة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”بتداء (نجسیء) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل (حی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل (علی) حرف جار (معنیین) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً ”خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”احدهما ان یثبت خبرها لاسمها فی الزمان الماضي“

ترجمہ: ایک ان دو معنوں سے یہ ہے کہ خبر کا ثبوت اسم کیلئے زمانہ ماضی میں ہوا ہو۔

ترکیب ○ (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”بتداء (ان) حرف مصدریہ (یثبت) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً ”فعل (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”فاعل (لام) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (نی) حرف جار (الزمان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”موصوف (الماضی) معرف باللام اسم مقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیر ”صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل



مصدر ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"سواء کان ممکن الانقطاع لو ممتنع الانقطاع"

ترجمہ: خواہ اس خبر کا اسم سے انقطاع ممکن ہو یا انقطاع ممتنع ہو۔

ترکیب ○ (سواء) اسم مصدر . معنی (مستو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "خبر مقدم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی برقع مرفوع محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "اسم ہے (کان) فعل ناقص کا واسطے زمانہ ماضی میں ثبوت (ممکن) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل مضاف (الانقطاع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے اسم فاعل مضاف کا اسم فاعل مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ہے مضاف کا منصوب لفظاً "معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (ممتنع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل مضاف (الانقطاع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے اسم فاعل مضاف کا اسم فاعل مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً "خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مصدر ہو کر مرفوع محلا "ابتداء موخر ہے (سواء) خبر مقدم کا ابتداء موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل کان زید قائما"

ترجمہ: جیسے زید کھڑا ہے۔ (یہ مثال ممکن الانقطاع کی ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی برقع مرفوع محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (قائما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے ابتداء محذوف "مثالہ" کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل کان اللہ علیما حکیما"

ترجمہ: جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ (یہ مثل ممتنع الاقطار کی ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی برقع مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (اللہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف لفظاً" خبر اول ہے (علینما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف لفظاً" خبر اول ہے (کان) فعل ناقص کی (حکیمنا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "خبر ثانی ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص کا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وثنائیهما ان یکون بمعنی صار"

ترجمہ: اور دو سہرا معنی یہ ہے کہ (کان ناقصہ) صار کے معنی میں ہو۔

ترکیب ○ (واد) حرف عاملہ (ثانی) اسم مقصور رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر "مضاف (ہو) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر "مبتداء (ان) حرف نائب عاملہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہو) ضمیر درو مستقر (راجع بسوئے) (کان) ناقصہ بتاولی لفظ تاکہ ضمیر کا ارجاع درست ہو جائے مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیر "مضاف (صار) مراد لفظ مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاولی مفرد ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل کان الفقیر غنیاً" ای صلہ الفقیر غنیاً

ترجمہ: جیسے کان الفقیر غنیاً یعنی فقیر الدار ہو گیا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی برقع مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الفقیر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "صفت (الرجل) موصوف محذوف کی (الرجل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (غنیاً) اسم

مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منفر ہوا (ای) حرف تفسیر (صار) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الفقیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (صار) فعل ناقص کا (غیا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "خبر ہے (صار) فعل ناقص کی (صار) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے منفر کی منفر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"والتامة تنم بفاعلها فلا تحتاج الى الخبر"

ترجمہ: اور کن کی دوسری قسم تامہ ہے یہ اپنے فاعل پر پوری ہو جاتی ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (التامة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مبتداء (تنم) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (ھی) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ب) حرف جار (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قائم مقام ہے شرط کے (ف) حرف فیصیحہ (لا تحتاج) فعل مضارع منفی معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (ھی) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (الی) حرف جار (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی (اصل میں اس کی شرط محذوف ہے) قائم مقام شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"فلا تكون ناقصة"

ترجمہ: لہذا یہ ناقصہ بھی نہ ہوگا۔

ترکیب ○ (ف) حرف فیصیحہ (لا تكون) فعل مضارع منفی معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ھی) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (لا تكون) فعل ناقص کا (ناقصة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ

فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً خبر ہے (الاکون) فعل ناقص کی (الاکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا کان الامر كذلك) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”و حیث تذ نکون بمعنی ثبت“

ترجمہ: اور اس وقت وہ کان ثبت کے معنی میں ہوگا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (میں) ظرف زبان منصوب لفظاً مضاف (از) ظرف مبنی بر سکون مجرور محلاً مضاف علیہ مضاف (توین) جملہ محذوف (لم نکن ناقصہ) کے عوض میں ہے مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (از) مضاف کا (از) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور محلاً مضاف الیہ (میں) مضاف کا (میں) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول فیہ مقدم (کون) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از خبر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے (کون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مجرور تقدیراً مضاف (ثبت) مراد لفظ مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً خبر ہے (کون) فعل ناقص کی (کون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا کان الامر كذلك) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”مثل کان زید ای ثبت زید“

ترجمہ: جیسے کان زید یعنی زید ثابت ہے۔

ترکیب ○ (شل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل از افعال تامہ معنی (ثبت) (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (شل) مضاف کا (شل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”والثانی صبار“

ترجمہ: اور دوسرا فعل ناقص صبار ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثانی) معرف باللام اسم مقصور رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسوا

کے مرفوع تقدیراً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (صار) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"وہی للانتقال ای للانتقال الاسم من حقيقة الی حقيقة اخرى او من صفة الی صفة اخرى"  
ترجمہ: اور اس میں انتقال کے معنی ہوتے ہیں خواہ اسم کا یہ انتقال ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف ہو یا محض ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ھی) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتداء (لام) حرف جار (الانتقال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستتر متعلق ہے (ثابتہ) اسم فاعل محذوف کے (ثابتہ) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ھی) مبتداء کی (ھی) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (لام) حرف جار (انتقال) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ (من) حرف جار (حقیقۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (من) حرف جار (صفة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (انتقال) مصدر مضاف کے (الی) حرف جار (حقیقۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (اخری) غیر منصرف ہے بسبب الف مقصورہ کے جو قائم مقام ہے دو سیوں کے رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب اور جر ساتھ تقدیر فتح کے مجرور تقدیراً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الی) حرف جار (صفة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (انتقال) مصدر مضاف کے (انتقال) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستتر متعلق ہے (ثابتہ) اسم فاعل محذوف کے (ثابتہ) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ھی) مبتداء کی (ھی) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہوا

”نحو صار الطین حزفا“

ترجمہ: جیسے گارا ٹھیکر بن گیا۔

ترکیب ○ (نحی) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (صار) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی برقع مرفوع محلاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الطین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً اسم ہے ”صار“ فعل ناقص کا (حزف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً ”خبر ہے (صار) فعل ناقص کی (صار) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے (نحی) مضاف کا (نحی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل صار زید غنیا“

ترجمہ: جیسے زید مالدار ہو گیا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (صار) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی برقع مرفوع محلاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم ہے (صار) فعل ناقص کلاغیا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً ”خبر ہے (صار) فعل ناقص کی (صار) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وقد تکون تامۃ“ بمعنی الانتقال من مکان الی مکان آخر“

ترجمہ: اور صار کبھی تامہ ہوتا ہے جو انتقال کے معنی میں آتا ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (قد) برائے تقلیل (تکون) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ و فونن تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”اسم ہے (تکون) فعل ناقص کا (تامۃ) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً ”اسم فاعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً ”خبر اول ہے (تکون) فعل ناقص کی (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیر ”مضاف (الانتقال) معرف باللام مصدر

رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "صدر (من) حرف جار (مکان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے مصدر کے (الی) حرف جار (مکان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (آخر) غیر منصرف بسبب و صیغہ اور وزن فعل کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مجرور حکما صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (الانتقال) مصدر کے۔ (الانتقال) مصدر اپنے دونوں مسقطوں سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (معنی) مضاف کا (معنی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً "خبر ثانی ہے (تکون) فعل ناقص کی (تکون) فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"و حیثئذ تتعدی بالی"

ترجمہ: اور وہ الی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حین) ظرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (از) ظرف جہی برسکون مجرور محلاً مضاف الیہ مضاف (تنوین) جملہ محذوفہ (کانت بمعنی الانتقال) کے عوض میں ہے) مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (از) مضاف کا (از) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے مقدم (تتعدی) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب معتل الی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً "فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ب) حرف جار (الی) مراد لفظ مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"نحو صار زید من بلد الی بلد"

ترجمہ: جیسے زید ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل ہوا۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (صار) فعل معلوم واحد مذکر غائب جہی بفتح مرفوع محلاً "فعل از افعال تامہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل (من) حرف جار (بلد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے صار فعل کے (الی) حرف جار (بلد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (صار) فعل کے (صار) فعل تام اپنے فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے متبداء

محذوف (مثلاً) کی ابتداء اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”والثالث اصبح والرابع اضحى والخامس امسى“

ترجمہ: اور تیسرا فعل ناقص اصبح ہے اور چوتھا فعل ناقص اضحیٰ ہے اور پانچواں فعل ناقص امسى ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (الثالث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے ل کر مرفوع لفظاً مبتداء (اصح) مراد لفظ مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (الرابع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے ل کر مرفوع لفظاً مبتداء (اضحیٰ) مراد لفظ مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف (الخامس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے ل کر مرفوع لفظاً مبتداء (امسى) مراد لفظ مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے ل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے ل کر جملہ معطوف ہوا۔

”فهذه الثلاثة لاقتران مضمون الجملة بلوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء“

ترجمہ: پس یہ تینوں جملہ کے مضمون کو ان کے وقت کے ساتھ ملانے کیلئے آتے ہیں جو صبح اور چاشت اور شام ہیں۔

ترکیب ○ (ف) حرف غییدہ (حا) تشبیہ (ذہ) اسم اشارہ مثنیٰ بر کسرو مرفوع محلاً موصوف (الثلاثة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے ل کر مرفوع محلاً مبتداء (لام) حرف جار (اقتران) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (مضمون) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ (الجملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (مضمون) مضاف کا (مضمون) مضاف اپنے مضاف الیہ سے ل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ مرفوع معنی ”قابل (ب) حرف جار (اوقات) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے ل کر مجرور لفظاً موصوف (التي) اسم موصول (ھی) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً مبتداء (الصباح) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (واو) حرف عطف (الضحی) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (المساء) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (المساء) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا



معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" صفت ہے (اوقاتہا) موصوف کی (لوقاتہا) موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (اقتزان) مصدر مضاف کے (اقتزان) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو اصبح زید غنیا"

ترجمہ: جیسے صبح کے وقت زید کو دولت حاصل ہوئی۔

ترکیب ۱ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (اصبح) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (اصبح) فعل ناقص کا (غنیا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (اصبح) فعل ناقص کی (اصبح) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"معناہ حصل غناہ فی وقت الصباح"

ترجمہ: اس کے معنی یہ ہیں کہ زید کو دولت صبح کے وقت حاصل ہوئی۔

ترکیب ۲ (معنی) اس مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی (راجع بسوئے اصبح زید غنیا بتاویل لفظ) مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مرفوع تقدیر" مبتداء (حاصل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (غنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر" فاعل (نی) حرف جار (وقت) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الصباح) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر (بتاویل مفرد حصول الغنی فی وقت الصباح) مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و نحو اضحی زید حاکماً"

ترجمہ: اور جیسے چاشت کے وقت زید کو حکومت ملی۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اضحیٰ) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الٹی بنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (اضحیٰ) فعل ناقص کا (حاکماً)" اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مشترک مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (اضحیٰ) فعل ناقص کی (اضحیٰ) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے بتداء محذوف "مثلاً" کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"معنا حاصل الحکومت فی وقت الضحیٰ"

ترجمہ: اس کے معنی یہ ہیں کہ زید کو حکومت چاشت کے وقت حاصل ہوئی۔

ترکیب ○ (اضحیٰ) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مرفوع تقدیراً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی (راجع بسوئے اصباحی زید حاکماً" بتناول لفظ) مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیراً "بتداء (مصل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب بنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (الحکومت) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل (نی) حرف جار (وقت) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اضحیٰ) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیراً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتداول مفرد (حصول الحکومت فی وقت الضحیٰ) ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ونحو امسئ زید قاریاً"

ترجمہ: اور جیسے شام کے وقت زید پڑھنے والا ہوا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (امسئ) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الٹی مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (امسئ) فعل ناقص کا (قاریاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی

کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (اسی) فعل ناقص کی (اسی) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"معناه حصل قرانته فی وقت المساء"

ترجمہ: اس کا معنی یہ ہے کہ زید شام کے وقت پڑھنے والا ہوا۔

ترکیب ○ (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوہ کے مرفوع تقدیر "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی (راجع بسوئے اسی زید قاریا" بتلویل لفظ) مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر "مبتداء (حاصل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (قرانت) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل (نی) حرف جار (وقت) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الماء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلویل مفرد (حصول قرانته فی وقت المساء) ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى صار"

ترجمہ: اور یہ تینوں فعل ناقص کبھی صار کے معنی میں ہوتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ضہ) اسم اشارہ مبنی بر کسر مرفوع محلاً "موصوف (الثلاثة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوہ لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً "مبتداء (قد) برائے تقلیل (تكون) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمہ بارزہ و نون تائید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (تكون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوہ کے مجرور تقدیر "مضاف (صار) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف منصوب محلاً "خبر ہے (تكون) فعل ناقص کی (تكون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل اصبح الفقير غنيا“ واضحی المظلم منيرا“ وامنسى زيدا كتابا“

ترجمہ جیسے فقیر ہمارا ہو گیا اور تاریک چیز روشن ہو گئی اور زید لکھنے والا ہو گیا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف مع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظا“ مضاف

(اصح) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی بر فتح مرفوع علا“ فعل از افضل بقیہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الفقير)

مرفوع باللام اسم مفرد منصرف مع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظا“ صفت ہے

(الرجل) موصوف محذوف کی (الرجل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظا“ اسم ہے (اصح) فعل ناقص کا (غنيا) اسم

مفرد منصرف مع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظا“ خبر ہے (اصح) فعل ناقص کی

(اصح) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (ولو) حرف عطفہ (اصحی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب

ممثل الملی جہی بر فتح تقدیرا“ مرفوع علا“ فعل از افضل بقیہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (المظلم) مرفوع باللام اسم

مفرد منصرف مع رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظا“ اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر

مرفوع علا“ فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظا“ صفت ہے (الشئیء) موصوف محذوف کی

(الشئیء) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظا“ اسم ہے (اضحی) فعل ناقص کا (منیرا) اسم مفرد منصرف مع رفع

ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظا“ خبر ہے (اضحی) فعل ناقص کی (اضحی) فعل

ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (ولو) حرف عطفہ (اسی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب

الملی جہی بر فتح تقدیرا“ مرفوع علا“ فعل از افضل بقیہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زیدا) اسم مفرد منصرف مع رفع ساتھ

ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظا“ اسم ہے (اسی) فعل ناقص کا (کتبا) اسم مفرد منصرف مع

رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظا“ اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع علا“ فاعل

ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظا“ خبر ہے (اسی) فعل ناقص کی (اسی) فعل ناقص اپنے اسم

اور خبر سے مل کر جملہ علیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر

مرفوع علا“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا“ خبر ہے مبتداء محذوف “مثله“ کہ

مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہوا۔

”وقد نکون نامة“

ترجمہ اور کبھی یہ تینوں فعل اصح۔ انھی۔ اسی تہہ بھی ہوتے ہیں (جبکہ ان کے معانی دخول فی المناخذ کے ہوں)

ترکیب ○ (ولو) حرف عطفہ (قد) حرف تعلیل (کون) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب مع مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ

لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا“ فعل از افضل بقیہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع ا

منصوب کو (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع علا“ اسم ہے (کون) فعل ناقص کا (نامة) اسم مفرد منصرف مع واحد مؤنث رفع ساتھ

کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (نکون) فعل ناقص کی (نکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"مثل اصبح زيد دخل زيد في الصباح واضطحي بكر اي دخل بكر في الضحى وامسلي عمرو اي دخل عمرو في المساء"

ترجمہ: جیسے اصبح زيد کے معنی ہیں زید صبح کے وقت داخل ہوا اور انھی بکر کے معنی چاشت کے وقت بکر داخل ہوا اور امسلي عمرو یعنی عمرو شام کے وقت داخل ہوا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اصح) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال تامہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" ذوالجمل (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیراً "مضاف (دخل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل (نی) حرف جار (الصلح) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مجرور محلاً" حال ہے ذوالجمل کا ذوالجمل سے مل کر مجرور محلاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اضحی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الھی مبنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً" فعل از افعال تامہ (بکر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (دخل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (بکر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل (نی) حرف جار (الضی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیراً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً "معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (امسلي) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب متصل الھی مبنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً" فعل از افعال تامہ (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (دخل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل (نی) حرف جار (المساء) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور

لفظاً "مجور ہے جار کا جار اپنے مجور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر مجور محلاً "معطوف ملانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف

"مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال

مثل اصبح زید بمعنی دخل زید فی الصباح  
 ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "مضاف (اصح زید) مراد لفظ مجور محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ مجور تقدیراً "مضاف (دخل زید فی الصباح) مراد لفظ مجور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجور تقدیراً "مجور ہے جار کا جار اپنے مجور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف کی "مثلاً" مبتداء محذوف

"مثلاً" اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"والسادس ظل والسابع بات"

ترجمہ: اور چھنا فعل ناقص مل ہے اور ساواں فعل ناقص بات ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (السواں) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء (مل) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (السواں) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء (بات) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا۔

"وهما لاقتراں مضمون الجملة بوقتیهما ہی النهار واللیل"

ترجمہ: اور یہ دونوں فعل ناقص بھی اپنے مضمون کے جملہ کو دن اور رات کے ساتھ مقارن کیلئے آتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ما) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً "مبتداء (لام) حرف جار (اقتراں) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجور لفظاً "مضاف (مضمون) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجور لفظاً "مضاف الیہ مضاف (الجملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجور لفظاً "مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے (اقتراں) مصدر مضاف کا (ب) حرف جار (وقتی) اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن

ماثل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن یا مثل مفتوح کے مجرور لفظاً" مضاف (وقتی اصل میں "و قین" تھا "نون" اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے) (۳) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" موصوف (۴) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً "ابتداء (النہار) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (اللیل) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (اقتزان) مصدر مضاف کے (اقتزان) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال

"وہما لاقتزان مضمون الجملة بالنهار واللیل"

ترجمہ: اور یہ دونوں فعل ناقص بھی اپنے مضمون کے جملہ کو دن اور رات کے ساتھ مقارن کیلئے آتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (۳) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً "ابتداء (لام) حرف جار (اقتزان) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (مضمون) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (الجملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے (اقتزان) مصدر مضاف کا (ب) حرف جار (النہار) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (اللیل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (اقتزان) مصدر مضاف کے (اقتزان) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے طرف مستقر متعلق ہے (الایان) اسم فاعل معذوف کے (الایان) اسم تشبیہ ذکر مرفوع لفظاً" اسم فاعل (۳) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فعل لاقتزان مضمون الجملة بالنهار و بات لاقتزان مضمون الجملة باللیل"





کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (نی) حرف جار (النہار) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (بات) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (بات) فعل ناقص (نائما)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر ضمہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (بات) فعل ناقص کی (بات) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (حاصل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (نوم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (نی) حرف جار (اللیل) معرف باللام اسم ظرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وقد تکونان بمعنی صلا"

ترجمہ: اور کبھی یہ دونوں نکل اور بات "صار" کے معنی میں ہوتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (تکونان) فعل مضارع معلوم تشبیہ مؤنث غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" اسم ہے (تکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً" مضاف (صار) مراد لفظ مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" خبر ہے (تکون) فعل ناقص کی (تکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"مثل ظل الصبی بالغاً" و بیات الشاب شیخاً"

ترجمہ: جیسے لڑکا بالغ ہو گیا اور جوان بوڑھا ہو گیا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مثل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الصیبی) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (مثل) فعل ناقص کا (بالغاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (مثل) فعل ناقص کی (مثل) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (بات) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الثاب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (بات) فعل ناقص کا (شیخنا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (بات) فعل ناقص کی (بات) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"والثامن مادام و هو لتوقيت شىء بمدة ثبوت خبرها لاسمها"  
ترجمہ: اور آٹھواں فعل ناقص مادام ہے اور یہ آتا ہے کسی شئی یا کسی کام کی تجدید اور تعیین وقت کے لئے اس مدت کے ساتھ جس میں اس کے اسم کے ساتھ اس کی خبر ثابت رہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثامن) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (لام) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (لام) حرف چار (توقيت) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (شئی) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ (ب) حرف جار (مدة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ثبوت) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ (لام) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (ثبوت) مصدر کے (ثبوت) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور

متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (مدۃ) مضاف کا (مدۃ) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظاً متعلق ہے (توقیت) مصدر کے (توقیت) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"فلابد من ان یکون قبلها جملة فعلية او اسمية"

ترجمہ: پس ضروری ہے کہ ملام سے پہلے کوئی جملہ ہو خواہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہو۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (لا) نفی جنس کا طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (بد) اسم نکرہ مفرد مثنیٰ برقع منصوب محلاً "اسم ہے (لا) نفی جنس کا (من) حرف جار (ان) حرف ناصبہ عالمہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (فل) ظرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً "خبر مقدم ہے (یکون) فعل ناقص کی (جملة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (فعلیہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (اسمیہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے (من) جار کا (من) جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً "خبر (لا) نفی جنس کی (لا) نفی جنس کا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذاکانت لتوقیت شیء بملء ثبوت خبر ہا لاسمھا) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"نحو اجلس مادام زید جالسا" و زید قائم مادام عمرو قائما"

ترجمہ: جیسے تو بیٹھ جب تک کہ زید بیٹھا ہے اور تو کھڑا رہ جب تک کہ عمرو کھڑا ہے۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اجلس) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مثنیٰ بر سکون مرفوع محلاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (لامام) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مثنیٰ برقع مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (لامام) فعل ناقص کا (جالسا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر

مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لام) فعل ناقص کی (لام) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلاویں مفرد مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (وقت) مضاف محذوف کا (وقت) مضاف محذوف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (اجلس) فعل کلا (اجلس) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (ولو) حرف عطفہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرسا ساتھ کسبہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرسا ساتھ کسبہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (لام) فعل باضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرسا ساتھ کسبہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (لام) فعل ناقص کا (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرسا ساتھ کسبہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لام) فعل ناقص کی (لام) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلاویں مفرد مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (وقت) مضاف محذوف کا (وقت) مضاف محذوف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (قائم) اسم فاعل کا (قائم) اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔

"والتاسع مازال والعاشر ما برح والحادی عشر مانفک والثانی عشر مافتیء وقد یقال مافتاء و ما افتا" ترجمہ اور نواں فعل ناقص مازال ہے اور دسواں فعل ناقص ما برح ہے اور گیارہواں فعل ناقص ما انفک ہے اور بارہواں فعل ناقص مافتیء ہے۔ (بکرتا اور آخر میں ہمزہ جیسے علم) اور کبھی اس کو افتاء، فتح التاء اور آخر میں ہمزہ اور کبھی اس کو افتاء (ہروزن) ما کر م از باب افعال) بھی کہتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (التاسع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرسا ساتھ کسبہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (مازال) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (العاشر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرسا ساتھ کسبہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (ما برح) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عطفہ (الحادی عشر) مرکب بتائی ہر دو جز مبنی بر فتح مرفوع محلاً" صفت ہے الفعل موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (مانفک) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عطفہ (الثانی عشر) مرکب بتائی دونوں جز مبنی بر فتح

مرفوع محلاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (مافاتیہ) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (یعنی) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ماقتا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ماقتا) مراد لفظ مرفوع محلاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا

"وکل واحد من هذه الافعال الاربعة للدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله"

ترجمہ: اور افعال اربعہ میں سے ہر ایک یہ بتاتا ہے کہ جس وقت سے اسم میں خبر کی قابلیت پیدا ہوئی ہے یا اس نے خبر قبول کی ہے اس وقت سے برابریہ خبر اس کے اسم کے لئے ثابت ہے۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" موصوف (من) حرف جار (حذہ) اسم اشارہ مثنیٰ برکسر مجرور محلاً" موصوف (الافعال) معرف باللام جمع کسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الاربعة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے (الافعال) موصوف کی (الافعال) موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" صفت ہے (حذہ) موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" صفت ہے (کل واحد) موصوف کی (کل واحد) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (لام) حرف جار (دوام) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ثبوت) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی "فاعل (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے خبر مضاف کا خبر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ہے (ثبوت) مصدر مضاف کا (لام) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (ثبوت) مصدر مضاف کے (ذ) ظرف زمان مثنیٰ بر سکون منصوب محلاً" مضاف (تقبل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مثنیٰ بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے (ثبوت) مصدر مضاف کا (ثبوت) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر مجرور

لفظاً" مضاف الیہ ہے (روام) مصدر مضاف کا (روام) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

ویلزمہا النفی

ترجمہ: اور اس کے لئے نفی لازم ہے۔

ترکیب: (واو) حرف عاطفہ (یلزم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہا) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ (النفی) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجرور صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ خبریہ ہوا

"مثل ما زال زید عالماً" وما برح زید صائماً" وما انفک بکر عاقلاً و ما فتی ء عمر و فاضلاً"

ترجمہ: جیسے زید برابر عالم رہا اور زید برابر روزہ دار رہا اور بکر ہمیشہ عاقل رہا اور عمرو برابر فاضل رہا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ما زال) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (ما زال) فعل ناقص کا (عالماً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (ما زال) فعل ناقص کی (ما زال) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ما برح) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (ما برح) فعل ناقص کا (صائماً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (ما برح) فعل ناقص کی (ما برح) فعل ناقص اپنے

اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (ما انفک) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (بکر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (ما انفک) فعل ناقص کا (عاقلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (ما انفک) فعل ناقص کی (ما انفک) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (ما فتی ء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ

طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم ہے (مافتسی ء) فعل ناقص کا (فاضلاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (مافتسی ء) فعل ناقص کی (مافتسی ء) فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"والثالث عشر لیس"

ترجمہ: اور تیرہواں فعل لیس ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثالث عشر) مرکب بنائی دونوں جز مبنی بر فتح مرفوع محلاً "صفت ہے الفعل موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء (لیس) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"وہی لفظی مضمون الجملہ فی زمان الحال"

ترجمہ: اور یہ جملہ کے مضمون کی نفی کے لئے آتا ہے زمانہ حال میں

ترکیب: (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً "مبتداء (لام) حرف جار (نئی) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (مضمون) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف (الجملہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (مضمون) مضاف کا (مضمون) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے (نئی) مصدر کا (نی) حرف جار (زمان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الحال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (نئی) مصدر کے (نئی) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (نئی) مصدر کے (نئی) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"وقال بعضهم فی کل زمان"

ترجمہ اور بعض نحویوں نے کہا ہے کہ ہر زمانے میں۔

ترکیب (واو) حرف عطفہ (قال) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (م) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا۔ (لیس لفظی مضمون الجملة) مقولہ مفعول بہ محذوف کا (لیس) مراد لفظ مرفوع محلا "ابتداء (لام) حرف جار (نئی) مصدر متعدی مجرور لفظاً" مضاف (مضمون) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (الجملة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (مضمون) مضاف کا (مضمون) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے (نئی) مصدر مضاف کا (نی) حرف جار (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (زمان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (نئی) مصدر کا (نئی) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے (لام) جار کا (لام) جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف متفرق مرفوع محلا "خبر ہے (لیس) مبتداء کی (لیس) مبتداء اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مراد لفظ منصوب محلا" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

"مثل لیس زید قائما"

ترجمہ: جمہور کے قول کے مطابق ترجمہ یوں ہو گا۔ زید اس وقت کھڑا نہیں (ماضی میں ہو اس سے بحث نہیں

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (لیس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (لیس) فعل ناقص کا (قائما)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لیس) فعل ناقص کی (لیس) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"واعلم ان تقدیم اخبار هذه الافعال علی اسمائها جائز بابقاء عملها"

ترجمہ: اور جانئے کہ افعال ناقصہ کی خبروں کی تقدیم ان کے اسموں پر جائز ہے ان کا عمل بھی باقی رہے گا۔

ترکیب ○ (واو) حرف متانہ (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (ان) حرف از حروف مشبہ بالفاعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (تقدیم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب



ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (اخبار) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور محلاً" موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مشار الیہ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے (اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے) مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (اخبار) مضاف کا (اخبار) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (تقدیم) مصدر مضاف کا (علی) حرف جار (اسماء) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (تقدیم) مصدر کے (تقدیم) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (جائز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (ابقاء) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (عمل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف منصوب معنی مفعول بہ (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (ابقاء) مصدر مضاف کا (ابقاء) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (جائز) اسم فاعل کے (جائز) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً" مفعول بہ ہے (اعلم) فعل کا (اعلم) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

"مثل کان قائماً" زید"

ترجمہ: جیسے زید کھڑا ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (قائماً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر مقدم ہے (کان) فعل ناقص کی (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مؤخر ہے (کان) فعل ناقص کا "کان" فعل ناقص اپنی خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے بتداء محذوف مثالیہ کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و علی هذا القیاس فی البواقی“  
ترجمہ: اور باقی افعال کو ان اسماء پر قیاس کر لیں۔

ترکیب ○ (داو) حرف عاطفہ (علی) حرف جار (هذا) اسم اشارہ یعنی برسکون مجرور محلاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً“ خبر مقدم (القیاس) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مصدر (نی) حرف جار (البواقی) معرف باللام جمع مونث کسر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (القیاس) مصدر کے (القیاس) مصدر اپنے متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً ”بتداء موخر ہے خبر مقدم کا بتداء موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال۔۔۔۔

”و علی هذا القیاس فی البواقی“

ترکیب ○ (داو) حرف عاطفہ (علی) حرف جار (هذا) اسم اشارہ یعنی برسکون مجرور محلاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مطلق ہے (قس) فعل محذوف کے (قس) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی برسکون مرفوع محلاً ”فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (القیاس) کا (ال) تینوں کے عوض آیا ہے (قیاساً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول مطلق (نی) حرف جار (البواقی) معرف باللام جمع مونث کسر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (قس) فعل کے (قس) فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور دونوں معتلوں سے جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا

وایضاً

ترکیب ○ (داو) حرف عاطفہ (ایضاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول مطلق ہے (آض) فعل محذوف کا (آض) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی فتح مرفوع محلاً ”فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”تقدیم اخبارها علی انفسها جائز سوی لیس والافعال التی کان فی لوانلہاما“

ترجمہ: اور نیز ان کے خبروں کی تقدیم خود ان پر بھی جائز ہے لیس کے علاوہ اور ان افعال ناقصہ کی جن کے شروع میں لفظ ”نا“ ہے۔  
ترکیب ○ (تقدیم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (اخبار) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ ہے (تقدیم) مصدر مضاف کا (علی) حرف جار (الفس) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے

جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (تقدیم) مصدر مضاف کے (تقدیم) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (جائز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (سوئی) طرف مکان وانما "مبنی بر فتح تقدیراً" منصوب محلاً "برہنا ظرفیت کے برہذبہ صحیح لیکن تقدیراً" بسبب بہ تعذر مضاف برائے استثناء (لیس) مراد لفظ مجرور محلاً "معطوف علیہ (داو) حرف عطفہ (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (الیتی) اسم موصول (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (نی) حرف جار (اوائل) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" خبر مقدم ہے (کلن) فعل ناقص کی (ما) مراد لفظ مرفوع محلاً "اسم موخر ہے (کلن) فعل ناقص کا (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (سوئی) مضاف کا (سوئی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً "مفعول فیہ ہے (جائز) اسم فاعل کا (جائز) اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل قائماً" کان زید

ترجمہ: جیسے کھڑا ہوا ہے زید۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (قائماً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً خبر مقدم ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم موخر ہے (کلن) فعل ناقص کا (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف" مثلاً "کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وقال بعضهم تقدیم الاخبار علی هذه الافعال ایضاً" جائز سوئی مادام

ترجمہ: اور کہا ہے بعض نحوویوں نے کہ ان کی خبروں کی تقدیم خود ان پر بھی جائز ہے بلاوام کے علاوہ۔

ترکیب ○ (داو) حرف عاطفہ (قل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (تقدیم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الاخبار) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ (علی) حرف جار (منہ) اسم اشارہ مبنی بر کسر مجرور محلا "موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (تقدیم) مصدر مضاف کے (تقدیم) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (جائز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو متستر مرفوع محلا "فاعل (سوئی) ظرف مکان مبنی بر فتح منصوب محلا "مضاف (لوام) مراد لفظ مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلا "مفعول فیہ ہے (جائز) اسم فاعل کا (جائز) اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر منصوب محلا "مقوله مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقوله مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

ترکیب ○ (ایضا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (آض) فعل محذوف کا (آض) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (هو) ضمیر درو متستر مرفوع محلا "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا۔

"امان تقدیم اسمائہا علیہا فغیر جائز لان اسمائہا فاعلہا و الفاعل لایجوز تقدیمہ علی الفعل" ترجمہ: بہر حال ان کے اسموں کی تقدیم ان پر جائز نہیں ہے اس لئے کہ ان کے فاعل ہوا کرتے ہیں اور فاعل کی تقدیم فعل پر جائز نہیں ہے۔

ترکیب ○ (ا) حرف شرط (تقدیم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (اسماء) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ (علی) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (تقدیم) مصدر کے (تقدیم) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء مضمّن ہے معنی "شرط کو (ف) حرف جزائیہ (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع

لفظاً" مضاف (جائز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (اسماء) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (لابجوز) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (تقدیم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ منصوب معنی" مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی" مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (علی) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتلاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (جائز) اسم فاعل کے (جائز) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مسمیٰ ہے معنی جزاء کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"واعلم ان حکم مشتقات هذه الافعال كحکم هذه الافعال في العمل"

ترجمہ: اور جان لے تو کہ عمل کرنے میں مشتقات کا وہی حکم ہے جو ان کے افعال کا حکم ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف استینافیہ (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (حکم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے

نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (مشتقات) جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (عنه) اسم اشارہ مبنی بر کسر مجرور محلاً" موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مشتقات) مضاف کا (مشتقات) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (حکم) مضاف کا (حکم) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (کاف) حرف جار (حکم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (عنه) اسم

اشارہ مبنی بر کسر مجرور محلاً "موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (حکم) مضاف کا (حکم) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کے (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (نی) حرف جار (العمل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل کے (ثابت) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مقطوعوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً "مفعول بہ ہے (اعلم) فعل کا (اعلم) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تم النوع العاشر  
بحمد اللہ تعالیٰ

## النوع الحادی عشر

"النوع الحادی عشر افعال المقاربه"

ترجمہ: (عوامل سامیہ کی) گیارہویں قسم افعال مقاربه میں ہے۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (الحادی عشر) مرکب بنائی دونوں جز مبنی بر فتح مرفوع محلاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (افعال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (المقاربه) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وانما سمیت بهذا الاسم لانها تدل علی المقاربه"

ترجمہ: اور یہ افعال مقاربه کے نام سے اس لئے موسوم ہیں کہ ان میں مقاربت کے معنی پائے جاتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (انما) کلمہ حصر مرکب از "ان" اور "ما" کافہ عن العمل لا محل لہا من الاعراب (سمیت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل (ھی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (ب) حرف جار زائدہ (هذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مجرور محلاً "منصوب معنی "موصوف (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" منصوب معنی "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب معنی "مفعول بہ (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ھا) ضمیر

منصوب متصل کی منصوب محلا " اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (تدل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً " فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا " فاعل (علی) حرف جار (المقاربتہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً " مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا " خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلا " مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"وہی ترفع الاسم الواحد"

ترجمہ: اور یہ اسم واحد کو رفع دیتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہی) ضمیر مرفوع مسفصل کی مرفوع محلا "بتداء (ترفع) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً " فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا " فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے لفظاً " موصوف (الواحد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً " اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا " فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً " صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً " مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا " خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وہی لربعة"

ترجمہ: اور یہ چار (فعل) ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہی) ضمیر مرفوع مسفصل کی مرفوع محلا "بتداء (لربعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً " اسم عدد مبہم ممیز مضاف ہے (افعال) تیز محذوف کا (افعال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً " مضاف الیہ تیز ہے ممیز مضاف کی ممیز مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مرفوع لفظاً " خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"الاول عسلی"

ترجمہ: پہلا فعل مقارب (عسی) ہے

ترکیب ○ (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے

مرفوع لفظاً صفت ہے (الفاعل) موصوف محذوف کی (الفاعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (عسی) مراد لفظ مرفوع محلا خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

”وہو فعل لدخول تاء التانیث الساکنۃ فیہ و غیر متصرف“

ترجمہ: اور یہ فعل (ماضی) ہے کیونکہ تاء تانیث ساکنہ اس کے ساتھ لگتی ہے البتہ یہ متصرف فعل نہیں ہے۔

ترکیب (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلا مبتداء (فعل) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مصدر (لام) حرف جار (دخول) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (تاء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف (التانیث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (تاء) مضاف کا (تاء) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً

موصوف (الساکنۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً اسم فاعل (عی) ضمیر درو متعز مرفوع محلا فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ مرفوع معنی ”فاعل ہے (دخول) مصدر کا (نی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (دخول) مصدر کے (دخول) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (فعل) مصدر کے (فعل) مصدر اپنے متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (فیہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (منصرف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے (هو) مبتداء کی (عسی) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

”لذلا یشتق منہ مضارع و اسما فاعل و مفعول و امر و نہی“

ترجمہ: کیونکہ عسی سے فعل مضارع اسم فاعل یا اسم مفعول یا امر یا نہی کے صیغہ مشتق نہیں ہوتے۔

ترکیب (اذا) برائے تعلیل (لا یشتق) فعل مضارع معنی مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضار پارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (من) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (مضارع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اسما) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ناقبل مفتوح کے نصب



اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً مضاف (اسماء اصل میں "اسمان" تھا "نون" اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے) (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (مفعول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً معطوف علیہ ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (امر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (نہی) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر مرفوع لفظاً نائب فاعل اور متعلق ہے فعل مجہول کا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"نحو عست"

ترجمہ: جیسے عست ہے۔

ترکیب ○ (نہی) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (عست) مراد لفظ مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (نہی) مضاف کا (نہی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبریہ مبتداء محذوف "مثلاً" کی ابتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مثلاً

ترکیب ○ (مثلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً مفعول مطلق ہے (مثلت) فعل محذوف کا (مثلت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم جہی برسکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"و عملہ علی نوعین"

ترجمہ: اور عسی کے دو قسم کے عمل ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (عمل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (علی) حرف جار (نوعین) اسم نشیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”الاول ان یرفع الاسم و هو فاعله و ینصب الخیر“

ترجمہ: اول یہ اسم کو رفع دیتا ہے اور وہ اس کا فاعل بھی ہوتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔

ترکیب ○ (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (النوع) موصوف محذوف کی (النوع) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (ان) حرف مصدریہ (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرّم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً (واو) حرف حالیہ (هو) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلاً مبتداء (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً حل ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حل سے مل کر منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرّم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً (الخبیر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (الاول) مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”ویکون خبره فعلاً“ مضارع عامع ان“

ترجمہ: اور اس کی خبر فعل مضارع ”ان“ کے ساتھ ہوگی۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جرّم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (فعلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً موصوف (مضارعاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (مع) ظرف زمان منصوب لفظاً مضاف (ان) مراد لفظ مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول فیہ ہے (یکون) فعل ناقص کا (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ

سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”و حینئذ یكون بمعنی قارب“

ترجمہ: اور اس وقت یہ عسی قارب کے معنی میں ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حین) ظرف زمان منصوب لفظاً ”مضاف (اذ) ظرف مبنی بر سکون مجرور محلاً“ مضاف الیہ مضاف ہے (کان) کذا) مضاف الیہ محذوف کا (کان کذا) مضاف الیہ محذوف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے۔ (حین) مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً ”مفعول فیہ مقدم

حینئذ) یہ مخفف ہے (حین اذ کان کذا) کی کان کذا جملہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں ”اذ“ کی ”زال“ کو تین مکسورہ دی گئی ہے۔ اس تین کو تین عوض کہتے ہیں“

(کیون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”اسم ہے (کیون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ تقدیر کسورہ کے مجرور تقدیر“ مضاف (قارب) مراد لفظ مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً ”خبر ہے (کیون) فعل ناقص کی (کیون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”نحو عسی زید ان یخرج“

ترجمہ: جیسے زید نکلنے کے قریب ہے۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسورہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (عسی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الفی مرفوع محلاً“ فعل از افعال مقاربہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسورہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم ہے (عسی) فعل مقارب کا (ان) حرف نائب عاملہ در مضارع (یخرج) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً ”فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفروہ ہو کر منصوب محلاً ”خبر ہے (عسی) فعل مقارب کی (عسی) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فزید مرفوع بانہ اسمہ و فاعلہ و ان یخرج منصوب فی موضع النصب بانہ خبرہ بمعنی قارب زید ان یخرج“

ترجمہ: پس اس مثال میں زید مرفوع ہے کیونکہ وہ اس کا اسم اور فاعل ہے اور ان یخرج منصوب ہے کیونکہ وہ نصب کی جگہ پر ہے اس کی خبر ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیۃ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "ابتداء (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مرفوع) اسم مفعول کے (مرفوع) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان) یخرج) مراد لفظ مرفوع محلاً "ابتداء (منصوب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (نی) حرف جار (موضح) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مضاف (النصب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے منصوب اسم مفعول کے (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "ذوالحال (ب) حرف جار (مستی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیر "مضاف (قارب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً "فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل (الخروج) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (خبر) مضاف کا (خبر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (منصوب) اسم مفعول کے (منصوب) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں معطوفوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر

مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

دوسرا احتمال

"فزید مرفوع بانہ اسمہ و فاعلہ وان یخرج فی موضع النصب بانہ خبرہ بمعنی قارب زید بن الخرج" ترجمہ: پس اس مثل میں زید مرفوع ہے کیونکہ وہ اس کا اسم اور فاعل ہے اور ان یخرج منصوب ہے کیونکہ وہ نصب کی جگہ پر ہے اس کی خبر ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غیبیہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مرفوع) اسم مفعول کے (مرفوع) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ان)

یخرج) مراد لفظ مرفوع محلاً" مبتداء (نی) حرف جار (موضع) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مضاف (النصب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کے (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (خبر) مضاف کا (خبر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل کے (ثابت) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے

معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

دوسرا احتمال

”بمعنی قارب زید بن الخروح“

ترکیب ○ (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ مجرور تقدیراً ”مضاف (قارب زید بن الخروح) مراد لفظ مجرور محلاً“ مضاف الیہ (معنی) ”مضاف کا (معنی)“ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً“ خبر ہے (هو) مبتداء محذوف کی (هو) مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و یجب ان یکون خبرہ مطابقاً لاسمہ فی الافراد والتشبیہ والجمع والتذکیر والتانیث“ ترجمہ: اور واجب ہے کہ اس کی خبر اپنے اسم کے مطابق ہو۔ مفرد اور سببہ اور جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے میں۔

ترکیب ○ (واو) حرف استیغافہ (یجب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل (ان) حرف نائبہ عالمہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مطابقاً)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”اسم فاعل (هو) ضمیر درو مشترک مرفوع محلاً“ فاعل (لام) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے (فی) حرف جار (الافراد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“

معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (التشبیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (الجمع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (التذکیر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (التانیث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں معطوفوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً“ خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً“ فاعل ہے (یجب) فعل کا (یجب) فعل اپنے

فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”نحو عسلی زید ان يقوم و عسلی الزیدان ان یقوموا و عسلی الزیدون ان یقوموا و عست ہند ان تقوم و عست الہندان ان تقوموا و عست الہندات ان تقمن“

ترجمہ: جیسے زید کھڑے ہونے کے قریب ہے اور دو زید کھڑے ہونے کے قریب ہیں اور بہت سے زید کھڑے ہونے کے قریب ہیں اور ہندہ کھڑی ہونے کے قریب ہے اور دو ہندہ کھڑی ہونے کے قریب ہیں اور بہت سی ہندہ کھڑی ہونے کے قریب ہیں۔

ترکیب ○ (نحی) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (عسی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل النبی بینی بر فتح تقدیراً ”مرفوع محلاً“ فعل از افعال مقاریبہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم ہے (عسی) فعل مقارب کا (ان) حرف نامہ عاملہ در مضارع (يقوم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً ”فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً ”خبر ہے (عسی) فعل مقارب کی (عسی) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (عسی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل

النبی بینی بر فتح تقدیراً ”مرفوع محلاً“ فعل از افعال مقاریبہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الزیدان) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً ”اسم ہے (عسی) فعل مقارب کا (ان)

حرف نامہ عاملہ در مضارع (يقوم) فعل مضارع معلوم تشبیہیہ مذکر غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے منصوب لفظاً ”فعل ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً ”خبر ہے (عسی) فعل مقارب کی (عسی) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (عسی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل النبی بینی بر فتح تقدیراً ”مرفوع محلاً“ فعل از افعال مقاریبہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الزیدون) معرف باللام جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ما قبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مکسور کے مرفوع لفظاً ”اسم ہے (عسی) فعل مقارب کا (ان) حرف نامہ عاملہ در مضارع (يقوموا) فعل مضارع معلوم جمع مذکر غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے منصوب لفظاً ”فعل ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً ”خبر ہے (عسی) فعل مقارب کی (عسی) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (عست) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب بینی بر فتح مرفوع محلاً ”فعل از افعال مقاریبہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (عند) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم ہے (عست) فعل مقارب کا (ان) حرف نامہ عاملہ در مضارع (تقوم) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے

منصوب لفظاً" فعل (حی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً" خبر ہے (عت) فعل مقارب کی (عت) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف (واو) حرف عاطفہ (عت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسروہ بسبب السقاء الساکنین کے مرفوع محلاً" فعل از افعال مقاربتہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الحندان) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (عت) فعل مقارب کا (ان) حرف نامہ عالمہ در مضارع (تقوما) فعل مضارع معلوم تشبیہ مؤنث غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور بزم ساتھ حذف نون کے مرفوع لفظاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً" خبر ہے (عت) فعل مقارب کی (عت) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (عت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسروہ بسبب السقاء الساکنین کے مرفوع محلاً" فعل از افعال مقاربتہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الحندات) معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (عت) فعل مقارب کا (ان) حرف نامہ عالمہ در مضارع (یقمن) فعل مضارع معلوم جمع مؤنث غائب مبنی بر فتح منصوب محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ن) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً" خبر ہے (عت) فعل مقارب کی (عت) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحی) مضاف کا (نحی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و هذا ای کون الخبر مطابقا" للفاعل اذا كان الفاعل اسما" ظاہراً"

ترجمہ: اور یہ یعنی خبر کا فاعل کے مطابق ہونا اس وقت ہے جب کہ فاعل اسم ظاہر ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً" معطوف علیہ یا مبدل منہ (ای) حرف تفسیر (کون) مصدر ناقص رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "اسم ہے (کون) مصدر ناقص کا (مطابقا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (لام) حرف جار (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مطابقا)" اسم فاعل کے (مطابقا)" اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کون) مصدر ناقص کی (کون) مصدر ناقص مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "اسم اور خبر سے مل کر مرفوع لفظاً" عطف بیان ہے معطوف علیہ کا یا بدل ہے مبدل منہ کا معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع محلاً" جزائے مقدم (اذا) ظرف زمان مسنن ہے معنی شرط کو



(کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (اسما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "موصوف (ظاہرا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط مؤخر ہے جزاء مقدم کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیکہ ہوا۔

دوسرا احتمال۔۔

"و هذا ای کون الخبر مطابقاً للفاعل اذا كان الفاعل اسماً ظاہراً"

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (عذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مرفوع محلا "مبدل منہ (ای) حرف تفسیر (کون) مصدر ناقص مرفوع لفظاً" مضاف (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "مضاف الیہ مرفوع معنی "اسم ہے (کون) مصدر ناقص کا (مطابقاً)" اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (لام) حرف جار (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مطابقاً) اسم فاعل کے (مطابقاً) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ منصوب لفظاً "خبر ہے (کون) مصدر ناقص کی (کون) مصدر ناقص مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "اسم اور خبر سے مل کر مرفوع لفظاً" بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع محلا "ابتداء (اذا) ظرف زمان مبنی بر سکون مرفوع محلا" مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل ناقص (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (اسما) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً "موصوف (ظاہرا)" اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلا "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اما اذا كان مضمراً فليست المطابقة بينهما شاطاً"

ترجمہ: اگر فاعل اسم ضمیر ہو تو اسم اور خبر کے درمیان مطابقت کی شرط نہیں ہے۔

ترکیب ○ (اما) حرف شرط مبنی بر سکون فعل شرط محذوف ہے وجوباً (اذا) ظرف زمان مبنی بر سکون منصوب محلا "مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر

مرفوع محلا" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (مضمر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر مشبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا" مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلا" مفعول فیہ مقدم (ف) حرف جزائیہ (لیست) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسره بسبب السقاء الساکین کے مرفوع محلا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (المطابقة) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مصدر (ین) ظرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے مصدر کا مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (لیست) فعل ناقص کا (شرطاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (لیست) فعل ناقص کی (لیست) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

دسر الاحتمال۔۔

اما اذا كان مضمرًا فليست المطابقة بينهما شرطاً"

ترکیب ○ (اما) حرف استدراکیہ (اذا) ظرف زمان مضمن ہے معنی شرط کو (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا" فعل ناقص (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (مضمر) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر مشبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (لیست) فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح مرفوع محلا" فعل ناقص (المطابقة) معرف باللام مرفوع لفظاً مصدر (ین) ظرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے مصدر کا مصدر اپنے مفعول فیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (لیست) فعل ناقص کا (شرطاً) اسم مفرد منصرف منصوب لفظاً" خبر ہے (لیست) فعل ناقص کی (لیست) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"النوع الثانی من النوعین المذكورین ان یرفع الاسم وحده"

ترجمہ: عسی کے عمل کے متعلق جن دو قسموں کا اوپر ذکر ہو چکا ہے ان کی نوع ثانی (یعنی عسی کے عمل کا دو سرا طریقہ) یہ ہے کہ وہ صرف اسم کو رفع دیں۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے

مرفوع لفظاً" موصوف (الثانی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسروہ کے مرفوع تقدیراً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" ذوالحال (من) حرف جار (النوعین) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" موصوف (المذکورین) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (ان) حرف نائبہ عاملہ در مضارعہ (ریض) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" ذوالحال (وحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وذلك اذا كان اسماً فعلاً" مضارعاً" مع لن"

ترجمہ: اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ اس کا اسم فعل مضارع ہوں ان کے ساتھ۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاملہ (ذکر) اسم اشارہ جہتی برقع مرفوع محلاً" مبتداء (اذا) ظرف زمان جہتی بر سکون منصوب محلاً" مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہتی برقع مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (فعلاً") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (مضارعاً") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (مع) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (ان) مراد لفظ مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (کان) فعل ناقص کا (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کا (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فیكون الفعل المضارع مع ان فی محل الرفع بانہ اسمہ ویكون عسیٰ حسینذہ بمعنی قرب“  
ترجمہ: پس فعل مضارع ان کے ساتھ محلاً ”مرفوع ہوگا کیونکہ وہ اس کا اسم ہے اور اس وقت عسیٰ قرب کے معنی میں ہوگا۔  
ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل از ان فعل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”موصوف (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً ”ذوالحال (مع) ظرف زمان منصوب لفظاً ”مضاف (ان) مراد لفظ مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً ”مفعول فیہ ہے (ثابتاً) ”اسم فاعل محذوف کا (ثابتاً) ”اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً ”اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً ”حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً ”اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (فی) حرف جار (محل) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً ”مضاف (الرفع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً ”خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ه) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً ”اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (یکون) فعل ناقص کے (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل از ان فعل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (عسیٰ) مراد لفظ مرفوع محلاً ”اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (حین) ظرف زمان منصوب لفظاً ”مضاف (از) ظرف زمان مبنی بر سکون مجرور محلاً ”مضاف الیہ مضاف (“) تین عوض ہے (کان الامر و کذا لک) مضاف الیہ محذوف ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا (حین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً ”مفعول فیہ (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً ”مضاف (قرب) مراد لفظ مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً ”خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر جزاء ہے شرط محذوف اذاکان کذا لک کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”مثل عسلیٰ ان یخرج زیدای قرب خروجه“

ترجمہ: عسلیٰ ان یخرج زید یعنی زید کا لگنا قریب ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (عسلیٰ) فعل ماضی معلوم مفضل الی مرفوع محلاً“ فعل از افعال تامہ (ان) حرف نامہ عالمہ در مضارع (یخرج) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً ”فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلویں مفرد ہو کر مرفوع محلاً ”فاعل ہے (عسلیٰ) فعل کا (عسلیٰ) فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (قرب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل (خروج) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ مرفوع معنی ”فاعل ہے مضاف کا مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً ”فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسراپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فلا یحتاج فی هذا الوجه الی الخبر بخلاف الوجه الاول لانه لا ینتم المقصود فیہ بدون الخبر“

ترجمہ: پس ایسی صورت میں عسیٰ خبر کا محتاج نہیں ہوتا بخلاف پہلی صورت کے کیونکہ اس میں مقصود خبر کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحہ (لا یحتاج) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (فی) حرف جار (هذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مجرور محلاً ”موصوف (الوجہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً ”ذوالحال (الی) حرف جار (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف (الوجہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً ”مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً ”اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (لا ینتم) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل (ال) موصول (مقصود) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی

کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (نی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً "فاعل (ب) حرف جار (دون) . معنی (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "مضاف (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تیلویل مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (خلاف) مصدر کے (خلاف) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً "مجرور ہے (نی) جار کا (نی) جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (لا یتحاج) فعل کے (لا یتحاج) فعل اپنے فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف اذا کان کنذک کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"فیکون الاول ناقصاً والثانی تلماعاً"

ترجمہ: لہذا پہلی قسم ناقص ہوگی اور دوسری قسم تام ہوگی۔

ترکیب ○ (ف) حرف تفریجیہ (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افضل ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے (النوع) موصوف محذوف کی (النوع) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (الثانی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسوف کے مرفوع تقدیر "صفت ہے (النوع) موصوف محذوف کی (النوع) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (ناقصاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (تلماعاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً "خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"والثانی کاد"

ترجمہ: اور دو سرائے فعل مقارب (کلا) ہے۔

ترکیب ○ (داو) حرف عاطفہ (الثانی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسروہ کے مرفوع تقدیر یا "صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (کلا) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"و هو یرفع الاسم وی نصب الخبر

ترجمہ: اور یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔

ترکیب ○ (داو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع محلاً "مبتداء (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (داو) حرف عاطفہ (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"و خبره فعل مضارع بغير ان"

ترجمہ: اور خبر اس کی فعل مضارع ان کے بغیر ہوتی ہے

ترکیب ○ (داو) حرف عاطفہ (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (مضارع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت اول (ب) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ان) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً "صفت ثانی ہے موصوف کی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

”وقد يكون مع ان تشبهاه بعسلى“

ترجمہ: اور کبھی خبر مع ان بھی ہوتی ہے عسی کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر عاتب صحیح مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً” فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً” اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مع) ظرف زمین منصوب لفظاً” مضاف (ان) مراد لفظ مجرور محلاً” مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف مستتر منصوب محلاً” خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (تشبہا) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً” مصدر (لام) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً” مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق اول ہے مصدر کے (ب) حرف جار (عسی) مراد لفظ مجرور محلاً” مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ثانی ہے مصدر کا مصدر اپنے دونوں مسطعوں سے مل کر منصوب لفظاً” مفعول لہ ہے (یکون) فعل ناقص کا (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

”مثل کا ذی دیدجی“

ترجمہ: جیسے قریب ہے کہ زید آئے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً” مضاف (کل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر عاتب مبنی بفتح مرفوع محلاً” فعل از افعال مقاربہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً” اسم ہے (کل) فعل مقارب کا (یجی) فعل مضارع معلوم واحد مذکر عاتب صحیح مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً” فعل (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً” فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً” خبر ہے (کل) فعل مقارب کی (کل) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً” مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً” خبر ہے مبتداء محذوف ”مثالہ“ کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فزید مرفوع بانہ اسم کا ذی“

ترجمہ: پس زید مرفوع ہے اس بناء پر کہ وہ کل فعل مقارب کا اسم ہے

ترکیب ○ (ف) حرف تفریح (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً” مبتداء (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً” اسم مفعول (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً” نائب فاعل (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف مشابہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم



منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (کا) مراد لفظ مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"ویجی ء فی محل النصب بانہ خبرہ"

ترجمہ: اور بجی محلا "منصوب ہے اس بناء پر کہ فعل مقارب کاو کی خبر ہے۔

(واو) حرف عاطفہ (یجی ء) مراد لفظ مرفوع محلا "مبتداء (نی) حرف جار (محل) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "مضاف (النصب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کے (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں معلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"معناہ قرب مجبی ء زید"

ترجمہ: اس کے معنی ہیں زید کا آنا قریب ہے۔

ترکیب ○ (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر "مبتداء (قرب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (مجبی ء) مصدر میسی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مرفوع محلا "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و حکم باقی المشتقات من مصدره کحکم کاد“

ترجمہ: اور باقی مشتقات جو اس کے مصدر کے ہوں گے کا وہی کا حکم رکھتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حکم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (باقی) اسم مقوم رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیراً مضاف

الیہ مضاف (المشتقات) معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً اسم مفعول (هن) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً (ذوالجل) (من) حرف جار (مصدر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً حل ہے ذوالجل کا ذوالجل اپنے حل سے مل کر مرفوع محلاً نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً صفت ہے (الالفاظ) موصوف محذوف کی (الالفاظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (باقی) مضاف کا (باقی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً مضاف الیہ ہے (حکم) مضاف کا (حکم) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (کاف) حرف جار (حکم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کی مجرور لفظاً مضاف (کاد) مراد لفظ مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”مثل لم یکد زید یجی ءو لایکاد زید یجی ء“

ترجمہ: جیسے قریب نہیں ہے کہ زید آئے اور زید آنے کے قریب نہیں ہوا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (لم یکد) فعل مضارع نفی محذوف معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً فعل از افعال مقاربه طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ

ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً اسم ہے (لم یکد) فعل مقاربه کا (یجی ء) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً خبر ہے (لم یکد) فعل مقاربه کی (لم یکد) فعل مقاربه اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لایکاد) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل از افعال مقاربه طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً اسم ہے (لایکاد) فعل مقاربه کا (یجی ء) فعل مضارع معلوم واحد مذکر

غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً خبر ہے (لا یکل) فعل مقارب کی (لا یکل) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (ش) مضاف کا (ش) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء مجزوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وان دخل علی کاد حرف النفی ففیہ خلاف"

ترجمہ: اور اگر داخل ہو حرف نفی کا اوپر کلو کے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط (دخل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (علی) حرف جار (کلو) مراد لفظ مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (حرف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (النفی) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (نی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر مقدم (غلاف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"قال بعضهم ان حرف النفی فیہ مطلقاً" یفید معنی النفی

ترجمہ: بعض نے کہا ہے کہ کاد میں حرف مطلقاً نفی کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔

ترکیب ○ (قال) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (حرف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسره لفظی کے معرف باللام مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" ذوالحال (نی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق مقدم ہے (یفید) فعل مؤخر کا (مطلقاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (یفید) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد

از ضماہ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ تقدیر کسرہ کے منصوب تقدیراً" مضاف (النفی) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب تقدیراً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"وقال بعضهم انه لا يفيدہ بل الاثبات باق علی حالہ"

ترجمہ: بعض نجات کا قول ہے کہ حرف نفی مطلقاً" معنی نفی کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ مثبت بحالہ مثبت رہے گا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قال) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (لا یفید) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (بل) حرف عاطفہ برائے انتقال از جملہ سابقہ سوائے جملہ لاحقہ مبنی بر سکون مقدر کسرہ موجودہ حرکت تخلص من السکونین (الاثبات) معرف باللام اسم منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (باق) اسم مقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیراً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (حال) اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع تقدیراً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر بتاویل مفرد منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"وقال بعضهم انه لا يفيدہ فی الماضی و فی المستقبل يفیدہ"

ترجمہ: اور بعض نجات کا قول ہے کہ حرف نفی ماضی میں نفی کا فائدہ نہیں دیتا اور مستقبل میں نفی کا فائدہ دیتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قال) فعل باضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (لا یفید) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (المنفی) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (نی) حرف جار (الماضی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (المستقبل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل مکرر کے (یضید) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"والثالث کرب"

ترجمہ: اور تیسرا فعل مقارب کرب ہے

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثالث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (کرب) مراد لفظ مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"وہو یرفع الاسم وینصب الخبر"

ترجمہ: اور تیسرا فعل مقارب کرب ہے اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور خبر اس کی ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے بغیر ان کے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً "مبتداء (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از

ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع  
 محلاً" فاعل (الاسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول  
 بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (ینصب) فعل مضارع  
 معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً"  
 فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الخبر) معرف بالاسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے  
 جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے  
 معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ  
 خبریہ ہوا

"و خبرہ یجی ءفعلاً" مضارعاً دائماً بغیر ان"

ترجمہ: اور خبر اس کی ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے بغیر ان کے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے  
 مرفوع لفظاً" مضاف (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء  
 (یجی ء) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون  
 لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" ذوالجمل (فعلاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ  
 فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (مضارعاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح  
 لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے  
 مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" موصوف (دائماً)" اسم مفرد  
 منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر  
 مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت (زماناً)" موصوف محذوف کی (زماناً)"  
 موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ (ب) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے  
 نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ان) مراد لفظ مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے  
 مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" صفت ہے (فعلاً" مضارعاً)"  
 موصوف کی (فعلاً" مضارعاً)" موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالجمل کا ذوالجمل اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً"  
 فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے  
 مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو کرب زید یخرج"

ترجمہ: جیسے زید نکلنے کے قریب ہے۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (کرب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال مقاربہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (کرب) فعل مقارب کا (یخرج) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماؤ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" خبر ہے (کرب) فعل مقارب کی (کرب) فعل مقارب اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"والرابع اوشک"

ترجمہ: اور چوتھا فعل مقارب اوشک ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الرابع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (اوشک) مراد لفظ مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"و هو يرفع الاسم وينصب الخبر"

ترجمہ: اور یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع متصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (يرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماؤ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ينصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماؤ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"و خبره فعل مضارع مع ان او بغير ان"

ترجمہ: اور اس کی خبر فعل مضارع ان کے ساتھ اور بغیر ان کے بھی آتی ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطف (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (فعل) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (مضارع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "ذوالحال (مع) طرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (ان) مراد لفظ مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً "معطوف علیہ (او) حرف عاطف (ب) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ان) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل لو شک زید ان یجی ءو یجی ء"

ترجمہ: جیسے زید آنے کے قریب ہے یا یہ کہ زید قریب ہے کہ آئے

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اوشک) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال مقابہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم ہے (اوشک) فعل مقابہ کا (ان) حرف نائب عاملہ در مضارع (یجی ء) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد منصوب محلاً "خبر ہے (اوشک) فعل مقابہ کی (اوشک) فعل مقابہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (او) حرف عاطف (یجی ء) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (اوشک) فعل مقابہ محذوف کے (اوشک) فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل مقابہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم ہے (اوشک) فعل مقابہ کا (اوشک) فعل مقابہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔



”وقال بعضهم ان افعال المقاربة سبعة هذه الاربعة المذكورة وجعل و طفق واخذ“

ترجمہ: اور بعض نحاۃ کا قول ہے کہ افعال مقاربتہ سات ہیں چار یہ ہی جو مذکور ہوئے ہیں اور تین جعل اور طفق اور اخذ ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قال) فعل باضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا ”فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (مہم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (افعال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مضاف (المقاربتہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (سبعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ مبدل منہ (حذہ) اسم اشارہ مبنی بر کسر مرفوع محلا ”موصوف (الاربعة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ موصوف (المذكورة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ اسم مفعول (مہی) ضمیر مجرور مستتر مرفوع محلا ”نائب فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ ہو کر مرفوع لفظاً“ صفت ہے موصوف کی اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ صفت ہے (حذہ) موصوف کی (حذہ) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلا ”معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (جعل) مراد لفظ مرفوع محلا ”معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (طفق) مراد لفظ مرفوع محلا ”معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (اخذ) مراد لفظ مرفوع محلا ”معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر مرفوع محلا ”بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلا ”مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال ”وجعل و طفق واخذ“

ترجمہ: اور ایک ان میں سے جعل ہے اور دو سرا فعل طفق ہے اور تیسرا فعل اخذ ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (جعل) مراد لفظ مرفوع محلا ”خبر ہے مبتداء محذوف ”احدھا“ کی ”احدھا“ مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (طفق) مراد لفظ مرفوع محلا ”خبر ہے مبتداء محذوف (ثانیہا) کسی ”ثانیہا“ مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (اخذ) مراد لفظ مرفوع محلا ”خبر ہے مبتداء محذوف (ثالثا) کی ”ثالثا“ مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

”وهذه الثلاثة مرادفة لكرب و موافقة له في جميع الاستعمال“

ترجمہ: اور یہ تینوں کرب کے ہم معنی ہیں اور استعمال میں اس کے موافق ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطف (ہذہ) اسم اشارہ مبنی بر کسر مرفوع محلاً ”موصوف (الثلاثة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً ”ابتداء (مرادفہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً“ اسم فاعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل (لام) حرف جار (کرب) مراد لفظ مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”معطوف علیہ (واو) حرف عاطف (موافقة) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً“ اسم فاعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل (لام) حرف جار (د) ضمیر مجرور متعلق کی مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے (نی) حرف جار (جمع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف (الاستعمال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم النوع الحادی عشر بحمد اللہ تعالیٰ

## النوع الثانی عشر

”النوع الثانی عشر افعال المدح والذم وہی اربعة“

ترجمہ: (عوامل ساعیہ کی) بارہویں قسم افعال مدح اور افعال ذم کے بارے میں ہے اور یہ چار فعل ہیں۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”موصوف (الثانی عشر) مرکب، بنائی دونوں جز مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً ”ابتداء (افعال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (المدح) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”معطوف علیہ (واو) حرف عاطف (الذم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور خبر سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”مرفوع لفظاً“ خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطف (ہی) ضمیر مرفوع مسفصل کی مرفوع محلاً ”ابتداء (اربعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے

جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم عدد مبہم میتر مضاف ہے (افعال) مضاف الیہ میتر محذوف کا (افعال) جمع کسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ میتر ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ میتر سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"الاول نعم"

ترجمہ: پہلا فعل مدح نعم ہے۔

ترکیب ○ (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً"۔ مبتداء (نعم) مراد لفظ مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اصله نعم بفتح الفاء وكسر العين فكسرت الفاء اتباعاً" للعین ثم اسكنت العين للتخفيف"

ترجمہ: جو اصل میں نعم ہے فا کے فتح عین کے کسره کے ساتھ پھر عین کی اتباع کی وجہ سے فاکلمہ کو کسره دے دیا گیا اور عین کو تخفیف کے لئے ساکن کر دیا گیا۔

ترکیب ○ (اصل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً"۔ مبتداء (نعم) مراد لفظ مرفوع محلا" ذوالحال (ب) حرف جار (فتح) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الفاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (کسر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (العین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا" حل ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حل سے مل کر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (ف) حرف عطفہ (کسرت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا" فعل کسره بسبب السقاء الساکین کے (الفاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" نائب فاعل (اتباعاً) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مصدر (لام) حرف جار (العین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے مصدر کے مصدر اپنے متعلق سے مل کر

منصوب لفظاً" مفعول لہ ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (ثم) حرف عاطفہ برائے عقیب (اسکنت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب جہتی برقع مرفوع محلاً "فعل کسرہ بسبب السقاء الساکنین کے (العین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے مرفوع لفظاً" نائب فاعل (لام) حرف جار (التخفیف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جہ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر معطوف ہے (اصلہ نعم بفتح الفاء) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"فصار نعم" ترجمہ: پھر نعم ہو گیا۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (صار) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہتی برقع مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے صار فعل ناقص کا (نعم) مراد لفظ منصوب محلاً "خبر ہے صار فعل ناقص کی صار فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا کسرت الفاء ثم اسکنت العین) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"و هو فعل مدح" ترجمہ: اور یہ نعم فعل مدح ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع متصل کی مرفوع محلاً "ابتداء (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جہ ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مدح) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جہ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و فاعله قد یکون اسم جنس معرفاً باللام"

ترجمہ: اور اس کا فاعل کبھی اسم جنس معرف باللام ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جہ ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتداء (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جہ ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جہ ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (جنس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جہ ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور

لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "موصول (معرفاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "اسم مفعول (ص) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ب) حرف جار (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "خبر (کیون) فعل ناقص کی (کیون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

مثل نعم الرجل زید

ترجمہ جیسے اچھا مرد ہے زید

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی بر فتح مرفوع محلاً فعل مدح (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً خبر مقدم (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مبتداء ہے خبر مقدم کا مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

دوسرا احتمال --

مثل نعم الرجل زید

ترجمہ جیسے اچھا مرد ہے زید

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً مضاف (نعم) فعل ماضی معلوم جہی بر فتح مرفوع محلاً فعل مدح (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً مخصوص بالمدح ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

تیسرا احتمال --

مثل نعم الرجل زید

ترجمہ جیسے اچھا مرد ہے زید

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً مضاف (نعم) فعل ماضی معلوم جہی بر فتح مرفوع محلاً فعل مدح (الرجل) معرف

باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً مبدل منہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

چوتھا احتمال ----

مثل نعم الرجل زید

ترجمہ مجھے اچھا مراد ہے زید

ترکیب (ن) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً مضاف (نعم) فعل ماضی معلوم جلی برقع مرفوع محلاً فعل مدح (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف کی (هو) مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"فالرجل مرفوع بانہ فاعل نعم"

ترجمہ: پس الرجل مرفوع ہے اس وجہ سے کہ وہ نعم کا فاعل ہے۔

ترکیب (ف) حرف غیبیہ (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مبتداء (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر رد مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (و) ضمیر منصوب مفعول کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (نعم) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر متبویں مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وزید مخصوص بالمدح مرفوع بانہ مبتداء و نعم الرجل خبرہ مقدم علیہ او مرفوع بانہ خبر مبتداء محذوف و

هو الضمیر"

ترجمہ: اور زید مخصوص بالمدح ہے مرفوع ہے اس وجہ سے کہ وہ مبتداء ہے اور نعم الرجل اس کی خبر مقدم ہے یا مرفوع ہے کیونکہ وہ مبتداء محذوف کی خبر ہے اور وہ ضمیر ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "ابتداء" (مخصوص) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (ب) حرف جار (الدرج) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر اول (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ه) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (ابتداء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے (لفظ) موصوف محذوف کی (لفظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مرفوع) اسم مفعول کے (مرفوع) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "معطوف علیہ

(واو) حرف عاطفہ (نعم الرجل) مراد لفظ مرفوع محلاً "ابتداء (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر اول (مقدم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (علی) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ثانی ہے ابتداء کی ابتداء اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہاں پر (خبر) کو ابتداءے دوم قرار دینا درست نہیں ورنہ مشتق ہونے کے باوجود اس کی خبر کا عائد سے خلوازم آئے گا۔ قائل

(واو) حرف عاطفہ (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ه) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے ان مشبہ بالفعل کا (خبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ابتداء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (محذوف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (خبر)

مضاف کا (خبر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مرفوع) اسم مفعول کے (مرفوع) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "معطوف ہے (مرفوع بانہ مبتدا) معطوف علیہ کا (مرفوع بانہ مبتدا) معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ثانی ہے (زید) مبتدا کی (زید) مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

(داو) حرف عاطفہ (حو) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً "ابتداء (الضمیر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"تقدیرہ نعم الرجل ہوزید"

ترجمہ: اس کی اصل نعم الرجل ہوزید ہے۔ (یہ احتمال صحیح نہیں ہے)

ترکیب ○ (تقدیر) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتداء (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً "فعل مدح (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر اول (حو) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً "ابتداء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ثانی ہے (تقدیرہ) مبتداء کی مبتداء اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال

"تقدیرہ نعم الرجل ہوزید"

(یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے)

ترکیب ○ (تقدیر) مصدر متعدی مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتداء (نعم) فعل ماضی معلوم مبنی بفتح مرفوع محلاً "فعل مدح (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "مبداً منہ (حو) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع محلاً "ابتداء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "بدل ہے مبداً منہ کا مبداً منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔



تیسرا احتمال

”تقدیرا نعم الرجل هوزید“

ترکیب ○ (تقدیر) مصدر متعدی مرفوع لفظاً ”مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ مبتدا (نعم الرجل هوزید) مراد لفظ مرفوع محلاً ”یا اسم مقصور مرفوع تقدیراً“ خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فیكون على التقدير الاول جملة“ واحدة“ و على التقدير الثاني جملتين“

ترجمہ: پس پہلی صورت میں ایک ہی جملہ ہوگا اور دوسری صورت میں دو جملے ہوں گے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو متثر مرفوع محلاً ”اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (علی) حرف جار (التقدير) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (علی) حرف جار (التقدير) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”موصوف (الثانی) معرف باللام اسم مقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (یکون) فعل ناقص کے (جملة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”موصوف (واحدة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً ”موصوف علیہ (واو) حرف عطف (جملتين) اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جزم ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے منصوب لفظاً معطوف ہے (جملة واحدة) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً ”خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے (اذا كان الامر كذلك) شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”وقد يكون فاعله اسماً مضافاً الى المعرف باللام“

ترجمہ: اور کبھی اس کا فاعل ایسا اسم ہوتا ہے جو مضاف ہو معرف باللام کی طرف۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (اسما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (مضافاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (الی) حرف جار (المعرف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ب) حرف جار (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (المعرف) اسم مفعول کے (المعرف) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے (اللفظ) موصوف محذوف کی (اللفظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مضافاً)" اسم مفعول کے (مضافاً)" اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"نحو نعم صاحب الرجل زيد"

ترجمہ: جیسے اچھا ہے آقا مرو کا زید۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (نعم) فعل باضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل مدح (صاحب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (زيد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مخصوص بالمدح ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ (باقی تین ترکیبیں مثل نعم الرجل زيد جو پہلے گزر چکی ہیں ان پر قیاس کر لیں لیکن یہ باقی تینوں احتمال صحیح نہیں ہیں۔ پہلے جو گذر گئے ہیں)

"وقد یکون ضمیراً" مستترا" ممیزاً" بنکرۃ منصوبۃ والضمیر المستتر عائذ الی معبود ذہنی"

ترجمہ: اور کبھی فاعل ضمیر مستتر ہوتا ہے جس کی تیز نگرہ منصوب سے لائی جاتی ہے اور وہ ضمیر مستتر معمود ذی کی طرف لوتی ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از اتصال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (ضمیراً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (مستتراً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت اول (میترا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (نکرۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (منصوبہ) اسم مفرد صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" اسم مفعول (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (میترا)" اسم فاعل کے (میترا)" اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ثانی ہے (ضمیراً)" موصوف کی (ضمیراً)" موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الضمیر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (المستتر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء لفظاً" مبتداء (عائد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (ذہنسی) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (عائد) اسم فاعل کے (عائد) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا۔

فائدہ معمود اسم مفعول ہے پھر بھی اس کو عمل نہیں دیا گیا اس لئے کہ یہاں پر موصوف واقع ہے اور موصوف ہونا یا مضر ہونا مانع عمل ہے کیونکہ مشابہت فعل کی بنا پر عمل کرتا ہے اور موصوف یا مضر ہونا علامت اسم ہے۔ جس سے جہت اسمیت مترشح اور مشابہت فعل ضعیف ہو جاتی ہے۔

”مثل نعم رجلا“ زید

ترجمہ: جیسے بہتر ہے از روئے مرد کے زید۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل مدح (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”مبیز (رجلا)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً ”تمیز ہے تمیز کی تمیز اپنی تمیز سے مل کر مرفوع محلاً“ فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”مخصوص بالمدح ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال ”مثل نعم رجلا“ زید

ترجمہ جیسے بہتر ہے از روئے مرد کے زید

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً ”مضاف (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع فعل مدح (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”مبیز (رجلا)“ اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً ”تمیز ہے تمیز کی تمیز اپنی تمیز سے مل کر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً ”خبر مقدم (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً ”مبتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وقد يحذف المخصوص اذا دل عليه قرينة و القرينة سياق الآية“

ترجمہ: اور کبھی مخصوص بالمدح حذف کر دیا جاتا جب اس کے حذف پر کوئی قرینہ دلالت کرتا ہو اور آیت کا سابق اس پر دلالت کرتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قد) برائے تقلیل (يحذف) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماہ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل (المخصوص) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”صفت ہے (اللفظ) موصوف محذوف کی (اللفظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً ”نائب فاعل (اذا) ظرف زمان مبنی بر سکون منصوب محلاً ”مضاف (دل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً ”فعل (علی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (دل) فعل کے (قرینة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر

ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے (دل) فعل کا (دل) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے (یحذف) فعل کا (یحذف) فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (القرینۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (سیاق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الایۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"مثل نعم العبد ای نعم العبد ایوب"

ترجمہ: جیسے نعم العبد ایوب۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل مدح (العبد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر مقدم (ایوب) اسم مفرد غیر منصرف مرفوع لفظاً" مخصوص بالمدح مبتداء محذوف ہے خبر مقدم کا مبتداء محذوف مخصوص بالمدح اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر (ای) حرف تفسیر (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل مدح (العبد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم (ایوب) اسم مفرد غیر منصرف رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مرفوع لفظاً" مخصوص بالمدح مبتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا مبتداء مخصوص بالمدح اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ (نعم العبد ایوب کی باقی تین ترکیبیں نعم الرجل زید کی طرح ہیں کر لیں لیکن یہ احتمال صحیح نہیں ہوں گے)

"و شرط المخصوص ان یکون مطابقاً للفاعل فی الافراد و التثنیۃ و الجمع و التذکیر و التانیث"

ترجمہ: اور مخصوص بالمدح کی شرط یہ ہے کہ وہ فاعل کے مطابق ہوتا ہے مفرد اور سیہ اور جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے میں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (شرط) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (المخصوص) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (ان) حرف نائبہ عالمہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ

سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مطابقاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (لام) حرف جار (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے مطابقاً اسم فاعل کے (نی) حرف جار (الافراد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف علیہ (داو) حرف عاطفہ (التثنیۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف اول (داو) حرف عاطفہ (الجمع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف ثانی (داو) حرف عاطفہ (التذکیر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف ثالث (داو) حرف عاطفہ (التانیث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مطابقاً) اسم فاعل کے (مطابقاً) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مسعولوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل نعم الرجل زيد و نعم الرجلان الزيدان و نعمت المرأة هند و نعمت المرأتان الهندان و نعمت النساء الهندات"

ترجمہ: جیسے اچھا مرد ہے زيد اور اچھے ہیں دو مرد زيد اور اچھے ہیں بہت سے مرد زيد اور اچھی ہے ایک عورت هندہ اور اچھی ہیں دو عورتیں هندہ اور اچھی بہت سی هندہ عورتیں۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال مدح (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر مقدم (زيد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مخصوص بالمدح مبتداء موخر ہے خبر مقدم کا مخصوص بالمدح مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (داو) حرف عاطفہ (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال مدح (الرجلان) معرف باللام اسم تثنیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر مقدم (الزيدان) معرف باللام اسم تثنیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "مخصوص بالمدح مبتداء ہے موخر ہے خبر مقدم کا مخصوص بالمدح مبتداء موخر اپنی

خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (نعم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل از افعال مدح (الرجال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلا "خبر مقدم (الزیدون) معرف باللام جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے مرفوع لفظاً" مخصوص بالمدح مبتدا موخر ہے خبر مقدم کا مخصوص بالمدح مبتدا موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوف ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (نعمت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسرہ بسبب السقاء الساکین کے مرفوع محلا "فعل از افعال مدح (المرءة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل (معد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مخصوص بالمدح ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (نعمت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسرہ بسبب السقاء الساکین کے مرفوع محلا فعل از افعال مدح (المرأتان) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً" فاعل (المعدنان) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً" مخصوص بالمدح ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (نعمت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسرہ بسبب السقاء الساکین کے مرفوع محلا "فعل از افعال مدح (النساء) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل (المعدنات) معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مخصوص بالمدح ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"والتانی بنس و هو فعل ذم اصلہ بنس من باب علم"

ترجمہ: اور دو سرا فعل بنس ہے اور وہ فعل ذم ہے اس کی اصل بنس ہے از باب علم ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثانی) معرف باللام اسم متعقوب رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر "صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (بنس) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلا "مبتداء (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ذم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" موصوف (اصل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ

لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (بئس) مراد لفظ مرفوع محلاً" ذوالحال (من) حرف جار (باب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (علم) مراد لفظ مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"فكسرت الفاء لتبعية العين ثم اسكنت العين تخفيفاً"

ترجمہ: (اولاً) "عین کی مطابقت کی وجہ سے فاکلمہ کو بھی کسرو دے دیا گیا۔ پھر عین کلمہ یعنی ہمزہ کو "بخفینا" ساکن کر دیا۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (کسرت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (الفاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" نائب فاعل (لام) حرف جار (تبعیۃ) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (العين) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (ثم) حرف عاطفہ (اسكنت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (العين) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" نائب فاعل (تخفيفاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول لہ ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر جزاء ہے (اذا كان الامر كذلك) شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"فصارت بئس"

ترجمہ: پھر بئس ہو گیا۔

ترکیب ○ (ف) نصیحة (صارت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر دو مشتمل مرفوع محلاً" اسم ہے صارت فعل ناقص کا (بئس) مراد لفظ منصوب محلاً" خبر ہے صارت فعل ناقص کی صارت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا كسرت الفاء ثم اسكنت العين) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔



”وفاعله احد الامور الثلاثة المذكورة في نعم“

ترجمہ: اور فاعل اس کا بھی انہیں تین میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو نعم میں ذکر کئے گئے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف“ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”مبتداء (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (الامور) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”موصوف (الثلاثة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”صفت اول (المذكورة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف ثانی ہے موصوف کی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور لفظاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”ایضاً“ ترکیب ○ (ایضاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”مفعول مطلق ہے (آض) فعل محذوف کا (آض) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً ”فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا۔

”و حکم المخصوص بالذم کحکم المخصوص بالمدح فی جمیع الاحکام المذكورة“

ترجمہ: اور مخصوص بالذم کا حکم مخصوص بالمدح جیسا ہے۔ مخصوص بالمدح میں ذکر کئے گئے تمام احکام میں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حکم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (المخصوص) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”نائب فاعل (ب) حرف جار (الذم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً ”صفت ہے (اللفظ) موصوف محذوف کی (اللفظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”مبتداء (کاف) حرف جار (حکم) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف (المخصوص) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے

کے مجرور لفظاً اسم مفعول (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (با) حرف جار (المدح) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً صفت ہے (اللفظ) موصوف محذوف کی (اللفظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ (نی) حرف جار (جمع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الاحکام) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (المذکورۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (جمع) مضاف کا (جمع) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ متعلق ہے (حکم) مصدر مضاف کے (حکم) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل بنس الرجل پرویز و بنس صاحب الرجل پرویز و بنس رجلاً پرویز و بنس الرجلان البرویزان و بنس الرجال البرویزون و بنس المرأة یهودیة و بنس المرأتان یهودیتان و بنس النساء الیہودیات"

ترجمہ: جیسے براہے مرد پرویز خسرو اور براہے آقا مرد کا پرویز خسرو اور براہے از روئے مرد کے پرویز خسرو اور برے دو مرد دو پرویز خسرو اور برے ہیں سب مرد سب پرویز خسرو اور بری ہے ایک عورت اور بری ہیں دو عورتیں اور بری ہیں سب عورتیں سب یہودیت۔

**ایک گزارش!** سیدنا زید رضی اللہ عنہ صحابی ء رسول کا نام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں یعنی ام المؤمنین کی والدہ ہیں اور امیر المؤمنین خلیفہ راشد سیدنا امیر مغلویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں اور ان دونوں ناموں کو مخصوص بالذم بنانا کائنات میں انتہائی غلیظ کام ہے بہر حال آگے آپ خود عقل مند ہیں۔ از حافظ حفظ الرحمن بن حافظ رحیم بخش بن مولوی محمد صلاح بن محمد شریف عفی عنہم

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (بنس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ذم (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل (پرویز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مخصوص بالذم ہے فعل ذم کا فعل ذم اپنے فاعل اور مخصوص بالذم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (بنس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ذم (صاحب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الرجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے

مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبطل منہ (پرویز) مخصوص بالذم اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "بدل ہے مبطل منہ کا مبطل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل ذم کا فعل ذم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (بئس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی برقع مرفوع محلاً "فعل از افعال ذم (صو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "مبطل منہ (رجلا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے تیز کی تمیز اپنی تیز سے مل کر مرفوع محلاً "فاعل (پرویز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مخصوص بالذم ہے فعل ذم کا فعل ذم اپنے فاعل اور مخصوص بالذم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (بئس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی برقع مرفوع محلاً "فعل از افعال ذم (الرجلان) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل ذم کا فعل ذم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر مقدم (الپرویزان) مخصوص بالذم معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "ابتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا ابتداء مؤخر اپنی خبر سے مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (بئس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جنی برقع مرفوع محلاً "فعل از افعال ذم (الرجل) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مبطل منہ (الپرویزان) مخصوص بالذم معرف باللام جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ما قبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مکسور کے مرفوع لفظاً "بدل ہے مبطل منہ کا مبطل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل ذم کا فعل ذم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوف ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (بئس) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب جنی برقع کسره بسبب السقاء الساکین کے مرفوع محلاً "فعل از افعال ذم (المرأة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل (یسودیہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مخصوص بالذم ہے فعل ذم کا فعل ذم اپنے فاعل اور مخصوص بالذم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (بئس) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب جنی برقع کسره بسبب السقاء الساکین کے مرفوع محلاً "فعل از افعال ذم (المراتان) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل ذم کا فعل ذم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر مقدم (الیسودیستان) مخصوص بالذم معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "ابتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا ابتداء مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (بئس) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب جنی برقع کسره بسبب السقاء الساکین کے مرفوع محلاً "فعل از افعال ذم (النساء) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل (الیسودیات) معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مخصوص بالذم ہے فعل ذم کا فعل ذم اپنے فاعل اور مخصوص بالذم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ

اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"والثالث ساء"

ترجمہ: اور تیسرا فعل ساء ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثالث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (ساء) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"وہو مرادف لبس و موافق لہ فی جمیع وجوہ الاستعمال"

ترجمہ: اور وہ بس کے ہم معنی اور اس کے موافق ہوتا ہے استعمال کے تمام طریقوں میں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مفضل کی مرفوع محلا "مبتداء (مرادف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (لام) حرف جار (بس) مراد لفظ مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (موافق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (لام) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے (نی) حرف جار (جمع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (وجوہ) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (وجوہ) مضاف کا (وجوہ) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (جمع) مضاف کا (جمع) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مقطوعوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"والرابع حب بفتح الفاء لوضمها"

ترجمہ: اور چوتھا فعل حب ہے فاعلہ کے فتح یا ضمہ کے ساتھ ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الرابع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ

کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (الفعل) موصوف محذوف کی (الفعل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (جب) مراد لفظ مرفوع محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (فتح) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الفاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (ضم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اصلہ حبیب بضم الغین"

ترجمہ: اور اس کی اصل جب عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ ہے۔

ترکیب ○ (اصل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (جب) مراد لفظ مرفوع محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (ضم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (العین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فاسکنت الباء الاولى وادغمت فی الثانية علی اللغه الاولى او نقلت ضمتهما الی الحاء وادغمت الباء فی الباء علی اللغه الثانية"

ترجمہ: لہذا پہلی باء کو ساکن کر دیا گیا اور ثانی میں ادغام کر دیا پہلی لغت کے مطابق یا منتقل کر دیا گیا ہے باء کے ضمہ کو حاء کی طرف اور باء کو باء میں ادغام کر دیا گیا دوسری لغت کے مطابق۔

ترکیب ○ (ف) حرف فعیلیہ (اسکنت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسرہ بسبب السقاء الساکنین کے مرفوع محلاً" فعل (الباء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (الاولی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیراً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ادغمت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (ھی) ضمیر درو مستتر

مرفوع محلاً" نائب فاعل (نی) حرف جار (الثانیۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے  
 جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل مجہول کے (علی) حرف جار (اللغة)  
 معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف  
 (الدولی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً" صفت ہے  
 موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل مجہول کے  
 فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور دونوں مسطوقوں سے مل کر جملہ نصیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (او) حرف عاطفہ (نقلت) فعل ماضی مجہول  
 واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (ضمیمہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ  
 کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر  
 مرفوع لفظاً" نائب فاعل (الی) حرف جار (الہاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر  
 ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق  
 سے مل کر جملہ نصیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (ادغمت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح کسرہ بسبب  
 السقاء الساکین کے مرفوع محلاً" فعل (الباء) معرف ہلام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر  
 ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" نائب فاعل (نی) حرف جار (الباء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب  
 ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (علی)  
 حرف جار (اللغة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور  
 لفظاً" موصوف (الثانیۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے  
 مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق  
 ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں مسطوقوں سے مل کر جملہ نصیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ  
 اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"وحب لا ینفصل عن ذافی الاستعمال"

ترجمہ: اور حب استعمال میں "ذ" سے جدا نہیں ہوتا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حب) مراد لفظ مرفوع محلاً" مبتداء (لا ینفصل) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از  
 ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ھو) ضمیر درو مستتر مرفوع  
 محلاً" فاعل (عن) حرف جار (زا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل  
 کے (نی) حرف جار (الاستعمال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی  
 کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں مسطوقوں سے مل کر  
 جملہ نصیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”ولہذا یقال فی تقریر الافعال حبذا“

ترجمہ: اور اسی وجہ سے افعال کے شمار کرنے میں حبذا ہی کہا جاتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (عذا) اسم اشارہ جنی بر سکون مجرور محلاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (یقابل) فعل مؤخر کے (یقابل) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً ”فعل (نی) حرف جار (تقریر) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (حبذا) مراد لفظ مرفوع محلاً ”نائب فاعل ہے (یقابل) فعل کا (یقابل) فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ خبیہ خبریہ ہوا۔

”وہو مرادف للنعم و فاعلہ ذا“

ترجمہ: اور یہ نعم کے ہم معنی ہوتا ہے اور فاعل اس کا ذا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہو) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلاً ”ابتداء (مرادف) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم فاعل (ہو) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلاً ”فاعل (لام) حرف جار (نعم) مراد لفظ مجرور محلاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ہو) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”ابتداء (ذا) مراد لفظ مرفوع محلاً ”خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا۔

”والمخصوص بالمدح مذکور بعده“

ترجمہ: اور مخصوص بالمدح اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (المخصوص) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم مفعول (ہو) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلاً ”نائب فاعل (ب) حرف جار (المدح) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے

مجروح سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً صفت ہے (اللفظ) موصوف محذوف کی (اللفظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (مذکور) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل (بعد) طرف زمان منصوب لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجروح متصل کی مجروح محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول فیہ ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و اعرابه کا اعراب مخصوص نعم فی الوجہین المذكورین لکنہ لا یطابق فاعلہ فی الوجوہ المذكورۃ“ ترجمہ اور اس کا اعراب نعم کے مخصوص بالدرج جیسا ہے دونوں مذکورہ صورتوں میں لیکن مذکورہ وجوہ میں وہ اس کے فاعل کے مطابق نہیں ہوتا (بلکہ مفرد) یہ جمع میں ذاتی رہے گا۔

ترکیب ○ (دو) حرف عطف (اعراب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجروح متصل کی مجروح محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (کاف) حرف جار (اعراب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرو لفظی کے مجروح لفظاً مضاف (مخصوص) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجروح لفظاً مضاف الیہ مضاف (نعم) مراد لفظ مجروح محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجروح لفظاً مضاف الیہ ہے (اعراب) مضاف کا (اعراب) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجروح لفظاً مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف مستتر متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کے (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (نی) حرف جار (الوجہین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجروح لفظاً موصوف (المذکورین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجروح لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجروح لفظاً مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل کے (ثابت) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر متدرک منہ ہوا (کن) حرف از حروف شبہ بالفعل برائے اشتراک طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ه) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً اسم ہے (کن) شبہ بالفعل کا (الیطابق) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر نائب صحیح مجروح از ضمیر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجروح متصل کی مجروح محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول بہ (نی) حرف جار (الوجوہ) معرف باللام جمع کسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجروح لفظاً موصوف (المذکورۃ) معرف باللام اسم



مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً (لکن) شبہ بالفعل کی (لکن) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر استدراک ہے متدرک منہ کا متدرک منہ اپنے استدراک سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استدراکیہ ہوا۔

”مثل حبذا زید و حبذا الیذین و حبذا الہند و حبذا الہندان و حبذا الہندات“

ترجمہ: جیسے اچھا ہے زید اور اچھے ہیں دو زید اور اچھے ہیں سب زید اور اچھی ہیں ہندہ اور اچھی ہے دو ہندہ اور اچھی ہیں سب ہندہ۔  
تشریح: ان تمام مثالوں کی ترکیب میں بھی وہی احتمالات نکل سکتے ہیں جو نعم الرجل زید کی ترکیب میں بیان کئے گئے۔۔۔ ایک مزید احتمال یہ بھی ہے کہ حبذا کو بمنزلہ ایک کلمہ کے مان کر فعل مدح کہا جائے اور زید کو فاعل بنایا جائے۔  
ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (حب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل از افعال مدح (ذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً فاعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مخصوص بالمدح ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (حبذا) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر سکون مرفوع محلاً فعل از افعال مدح (الذین) مخصوص بالمدح معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (حب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل از افعال مدح (ذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً فاعل ہے فاعل کا فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً خبر مقدم (الذین) مخصوص بالمدح معرف باللام جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مسور کے مرفوع لفظاً مبتداء ہے خبر مقدم کا مبتداء اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (حب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل از افعال مدح (ذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً مبدل منہ (ہند) مخصوص بالمدح اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (حب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً فعل از افعال مدح (ذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً فاعل (الہندان) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً مخصوص بالمدح ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل اور مخصوص بالمدح سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف رابع (واو) حرف عاطفہ (حبذا) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر سکون مرفوع محلاً فعل از افعال مدح (الہندات) مخصوص بالمدح معرف باللام جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف خامس ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے پانچوں معطوفوں سے مل کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل)

مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف" مثلاً "کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔"

"و یجوز ان یکون قبلہ او بعدہ اسم موافق لہ منصوباً" علی التمییز لو علی الحال  
ترجمہ: اور جائز ہے کہ مخصوص بالمدح سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اسم ہو جو فاعل کے موافق ہو۔ مفرد اور سیہ اور جمع وغیر میں اور وہ اسم تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہو گا یا حال ہونے کی بناء پر منصوب ہو گا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (یجوز) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (ان) حرف مصدریہ عاملہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (قبل) طرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "معتوف علیہ (او) حرف عاطفہ (بعد) طرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "معتوف علیہ کا معتوف علیہ اپنے معتوف سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (موافق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (لام) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (منصوباً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (علی) حرف جار (التمییز) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معتوف علیہ (او) حرف عاطفہ (علی) حرف جار (الحال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معتوف علیہ کا معتوف علیہ اپنے معتوف سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (منصوباً) اسم مفعول کے (منصوباً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر مرفوع محلاً "فاعل ہے (یجوز) فعل کا (یجوز) فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"مثل حینار جلا" زید و حینار اکبا" زید و حینار زیدر جلا" و حینار زیدر اکبا"

ترجمہ: جیسے اچھا ہے مرد ہونے کے اعتبار سے زید اور اچھا ہے سوار ہونے کے اعتبار سے زید اور اچھا ہے زید مرد ہونے کے اعتبار سے اور اچھا ہے زید سوار ہونے کے اعتبار سے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (حب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال مدح (ذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً "بمسم میتر (رجلا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میتر کی میتر اپنی تیز سے مل کر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر مقدم (زید) مخصوص بالمدح اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "ابتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (حب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال مدح (ذا) اسم اشارہ مبنی بر سکون مرفوع محلاً "ذوالحال (راکبا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر مقدم (زید) مخصوص بالمدح اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "ابتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر مقدم (زید) مخصوص بالمدح اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "تیز ہے میتر کی میتر اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (حبذا) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال مدح (زید) مخصوص بالمدح اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "ذوالحال (راکبا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل مدح کا فعل مدح اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ثالث ہے معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء محذوف "مثلاً" کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و اعلم انه لا يجوز التصرف في هذه الافعال غير الحاق التاء فيها"

ترجمہ: اور جان لے تو کہ ان (افعال مدح و ذم) میں گردان کرنا جائز نہیں ہے علاوہ تانیث کے لائق کر دینے کے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل (انت) ضمیر درو مشترک مرفوع محلاً" فاعل (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (لا يجوز) فعل مضارع منقہ معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (التصريف) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی

کے ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "مصدر (نی) حرف جار (ہذہ) اسم اشارہ مبنی برکسر مجرور محلاً" موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (التصرف) مصدر کے (التصرف) مصدر اپنے متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً "مستثنیٰ منہ (غیر) بمعنی (الا) استثناء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً "مضاف (الحلق) معرف باللام مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف (الاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ (نی) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (الحلق) مصدر کے (الحلق) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مستثنیٰ ہے (التصرف فی ہذہ) مستثنیٰ منہ کا (التصرف فی ہذہ) مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے (لا یجوز) فعل کا (لا یجوز) فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً "مفعول بہ ہے (اعلم) فعل کا (اعلم) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

"ولہذا سمیت ہذہ الافعال غیر متصرفۃ"

ترجمہ: اور اسی وجہ سے ان افعال کا نام غیر متصرفہ رکھا جاتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (ہذا) اسم اشارہ مبنی برسکون مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (سمیت) فعل مؤخر کے (سمیت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی برفتح مرفوع محلاً "فعل (ہذہ) اسم اشارہ مبنی برکسر مرفوع محلاً موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً "نائب فاعل (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً "مضاف (متصرفۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تم النوع الثانی عشر بحمد اللہ تعالیٰ

## النوع الثالث عشر

"النوع الثالث عشر افعال القلوب"

ترجمہ: (عوامل ساعیہ کی) تیرہویں قسم افعال قلوب ہے۔

ترکیب ○ (النوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (الثالث عشر) مرکب بنائی دونوں جز بنی برقع مرفوع محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (افعال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (القلوب) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وانما سمیت بہا لان صدورہا من القلب ولا دخل فیہ للجوارح"

ترجمہ: اور بے شک یہ افعال قلوب کے ساتھ نام دیئے گئے اس لئے ان کا صدور قلب سے ہوتا ہے اور ان میں جوارح کے عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (انما) کلمہ حصر مرکب از "ان" اور "ما" کافہ عن العمل لا محل لہما من الاعراب (سمیت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب بنی برقع مرفوع محلاً" فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ب) حرف جار زائدہ (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" منصوب معنی "مفعول بہ (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (صدر) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (ہا) مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (من) حرف جار (القلب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کے (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" ذوالحال (واو) حرف حالیہ (لا) نفی جنس کا ہے طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (دخل) اسم مکسر مفرد بنی برقع منصوب محلاً" اسم ہے (لا) نفی جنس کا (نی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق "کائن" اسم فاعل محذوف کے (کائن) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (لام) حرف جار (الجوارح) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (کائن) اسم فاعل کے (کائن) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (لا) نفی جنس کی (لا) نفی جنس کا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" حال ہے (من) ضمیر فاعل فی ثابت) ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" فاعل ہے (ثابت) اسم فاعل کا (ثابت) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے (لام) جار کا (لام) جار اپنے مجرور سے

مل کر طرف لغو متعلق ہے (سمیت) فعل کے (سمیت) فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”و تسمى افعال الشك واليقين لان بعضها للشك وبعضها لليقين“

ترجمہ: اور ان افعال کا دوسرا نام افعال شک اور یقین بھی ہے کیونکہ ان میں سے بعض شک کا معنی دیتے ہیں اور بعض یقین کے لئے آتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (تسمی) فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب معتل الفی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل (افعال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (الشک) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور عاطفہ (الیقین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً مفعول بہ (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (لام) حرف جار (الشک) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (الیقین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

ایضاً

ترکیب ○ (ایضاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ منصوب لفظاً مفعول مطلق ہے (آض) فعل محذوف کا (آض) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی بر فتح مرفوع محلاً فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”وہی تدخل علی المبتدا والخبر و تنصبهما معا“ بان یکونا مفعولین لہا“  
ترجمہ: اور یہ افعال مبتدا اور خبر داخل ہوتے ہیں اور یہ (مبتداء اور خبر) دونوں کو ساتھ ساتھ نصب دیتے ہیں بایں معنی کہ دونوں اس کے مفعول ہوتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہی) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلا ”مبتداء (تدخل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ و نون تاکید رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا“ فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا ”فاعل (علی) حرف جار (المبتدا) محرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظا“ معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الخبر) محرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظا“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلا“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (تنصب) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا“ فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (ہا) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا“ مفعول بہ (معا) اسم ظرف منصوب لفظا“ مفعول فیہ (ب) حرف جار (ان) حرف مصدریہ عاملہ در مضارع (یکونا) فعل مضارع معلوم تشنیہی مذکر غائب رفع ساتھ اثبات نون کے نصب اور جزم ساتھ حذف نون کے منصوب لفظا“ فعل از افعال ناقصہ ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلا“ اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مفعولین) اسم تشنیہی رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جار ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے منصوب لفظا“ اسم مفعول (ہا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ نائب فاعل (لام) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظا“ صفت ہے (اللفظین) موصوف محذوف کی (اللفظین) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر موصوف لفظا“ خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر مجرور محلا“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (تنصب) فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے (تدخل علی المبتدا والخبر) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مرفوع محلا“ خبر ہے (ہی) مبتداء کی (ہی) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وہی سبعة ثلاثة منها للشک و ثلاثة منها لليقين و واحد منها مشترك بينهما“

ترجمہ: اور یہ افعال قلوب سات (۷) ہیں تین برائے شک اور تین برائے اقلہ یقین کے لئے اور ایک ان دونوں میں مشترک ہے۔  
ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہی) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلا ”مبتداء (سبعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظا“ مبدل منہ (ثلاثة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظا“ موصوف (من) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا“ مجرور ہے جار کا

جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (لام) حرف جار (الشک) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ثلاثۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (من) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (لام) حرف جار (الیقین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (من) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (مشتک) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلا "نائب فاعل (بین) طرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے (ثلاثۃ منها للیقین) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مرفوع محلا "معطوف ہے (ثلاثۃ منها للشک) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مرفوع محلا" بدل ہے (سبعة) مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (می) مبتداء کی (می) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اما الثلاثة الاول فحسبت وظننت و خلعت"

ترجمہ: بہر حال پہلے تین افعال قلوب حسبت اور نعت اور خلعت ہیں۔

ترکیب ○ (ا) حرف شرط و تفصیل فعل شرط محذوف ہے وہو (الثلاثۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (منضمین ہے معنی شرط کو) (ف) حرف جزائیہ (حسبت) مراد لفظ مرفوع محلا "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ظننت) مراد لفظ مرفوع محلا" معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (خلعت) مراد لفظ مرفوع محلا "معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی (منضمین ہے معنی جزاء کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔



”مثل حسبت زيدا“ فاضلا“ و ظننت بکرا“ نائما“ و خلعت حسانا“ قائما“

ترجمہ: جیسے میں نے زید کو فاضل گمان کیا اور میں نے بکر کو سونے والا سمجھا اور میں نے حسان کو کھڑا ہوا خیال کیا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (حسبت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً“ فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً“ فاعل (زیداً“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ اول (فاضلاً“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ظننت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً“ فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً“ فاعل (بکراً“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ اول (نائماً“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (خلعت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً“ فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً“ فاعل (حساناً“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ اول (قائماً“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء محذوف ”مثالہ“ کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و ظننت اذا کان مشتقاً“ من الظنة بمعنى التهمة لم يقض المفعول الثاني“

ترجمہ: اور ظننت جب نعت مصدر سے مشتق ہو یعنی تہمت کے معنی میں ہو تو یہ دوسرے مفعول کا تقاضا نہیں کرے گا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ظننت) مراد لفظ مرفوع محلاً“ مبتداء (ازا) ظرف زمان مبنی بر سکون منصوب محلاً“ مضاف مسنن ہے معنی شرط کے (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (مشتقاً“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ نائب فاعل (من) حرف جار (الظنة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ ذوالحال (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیراً“ مضاف (التهمة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر

منسوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منسوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منسوب محلاً" مفعول فیہ ہے (لم یقض) فعل موخر کا قائم مقام ہے شرط کے - (لم یقض) فعل مضارع نفی جحد معلوم واحد مذکر غائب متصل یاکی مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مجزوم لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منسوب لفظاً" موصوف (الثانی) معرف باللام مقومس رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسره کے منسوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منسوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قائم مقام ہے جزاء کے شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"یقض" اصل میں "یقضی" تھا "لم" حازمہ جحدیہ کی وجہ سے "می" کلمہ حذف کر دیا گیا ہے

"مثل ظننت زیدا" ای اتهمنتہ"

ترجمہ: جیسے نسبت زیدا" یعنی میں نے زید کو تہمت لگائی۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ظننت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم بینی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (زیدا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منسوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (اتہمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم بینی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منسوب متصل کی منسوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و اما الثلاثة الثانية فعلمت و رایت و وجدت"

ترجمہ: اور دوسرے تین افعال قلوب علمت اور رایت اور وجدت ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (اما) حرف شرط و تفصیل فعل شرط محذوف ہے وجوباً" (الثلاثة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (الثانية) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی

صفت سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (مسمعن ہے معنی شرط کو) (ف) حرف جزائیہ (علمت) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (رایت) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (وجدت) مراد لفظ مرفوع محلاً "معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی (مسمعن ہے معنی جزء کو شرط اپنی جزء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزء ہے شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا

"مثل علمت زیدا امینا" و رایت عمروا" فاضلا" و وجدت البیت رہینا"

ترجمہ: جیسے میں نے زید کو امانتدار جانا اور میں نے عمرو کو فاضل یقین کیا اور میں نے گھر کو گروی پایا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (علمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (زیدا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ اول (امینا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (رایت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (عمروا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ اول (فاضلا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (وجدت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً "ساختہ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (البیت) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ اول (رہینا)" بمعنی (مر ہونا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و علمت قد یجیء بمعنی عرفت"

ترجمہ: اور علمت کبھی عرفت کے معنی میں آتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (علمت) مراد لفظ مرفوع محلاً "مبتداء (قد) برائے تقلیل (یجیء) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے

مجرور تقدیراً" مضاف (عرفت) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو علمت زیدا" ای عرفنتہ

ترجمہ: جیسے علمت زیدا" یعنی میں نے زید کو پہچان لیا۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرود منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (علمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (زیداً)" اسم مفرود منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (عرفت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ورایت قد یکون بمعنی ابصرت"

ترجمہ: اور رایت کبھی ابصرت (آنکھوں سے دیکھنے) کے معنی میں آتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (رایت) مراد لفظ مرفوع محلاً "مبتداء (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیراً "مضاف (ابصرت) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً "خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"کقولہ تعالیٰ فانظر ماذا ترسی"

ترجمہ: جیسے قول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پس غور کر اس چیز پر کہ جس کو تو دیکھتا ہے۔

ترکیب ○ (کف) حرف جار (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور

لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ذوالحال (تعالیٰ) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الفی مرفوع محلاً "فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتقدیر قد منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (ف) حرف نصیحة (انظر) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ما) استقبالیہ (ذا) . معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (تری) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب معتل الفی مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی محذوف راجع بسوئے اسم موصول منصوب محلاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ محذوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا کلن کذا) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر منصوب محلاً "مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال۔۔۔ "کقولہ تعالیٰ فانظر ماذا تری"

ترکیب ○ (کاف) حرف جار (قول) مصدر متعدی مجرور لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ذوالحال (تعالیٰ) فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح "فتح زائل ہوئی ہے تعلیل کی وجہ سے "مرفوع محلاً" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتقدیر قد منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر قول ہوا (ف) حرف نصیحة (انظر) فعل امر حاضر معلوم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ماذا) مجموع ایک اسم . معنی (ای شئی) کے ہے (ای شئی) مراد لفظ منصوب محلاً "موصوف (تری) فعل مضارع معلوم واحد مذکر مخاطب معتل الفی مرفوع تقدیراً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب محلاً "مفعول بہ ہے (انظر) فعل کا (انظر) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا کلن کذا) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر منصوب محلاً "مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ووجدت قد یکون بمعنی اصبت"

ترجمہ: اور وجدت کبھی اصبت (پالینے) کے معنی میں آتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (وجدت) مراد لفظ مرفوع محلاً "مبتداء (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح

مجرد از ضماہ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "اسم ہے (کیون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ تقدیر کسروہ کے مجرور تقدیر "مضاف (اصبت) مراد لفظ مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا "خبر ہے (کیون) فعل ناقص کی (کیون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل وجدت الضالۃ ای اصبتھا"

ترجمہ: جیسے وجدت الضالۃ یعنی میں نے گم شدہ چیز پالی ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظا "مضاف (وجدت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا "فاعل (الضالۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (اصبت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا "فاعل (ھا) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا "خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فان کل واحد من هذه المعانی لا یقتضی الامتعلقا واحدا"

ترجمہ: پس ان معانی میں سے ہر ایک صرف ایک ہی متعلق (مفعول) کا تقاضا کرتے ہیں۔

ترکیب ○ (ف) حرف طیلیہ (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظا "مضاف (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظا "موصوف (من) حرف جار (عند) اسم اشارہ مبنی بر کسر مجرور محلا "موصوف (المعانی) معرف باللام اسم مقصور جمع مکسر منصرف رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ تقدیر کسروہ کے مجرور تقدیر "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا "صفت ہے (کل واحد) موصوف کی (کل واحد) موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظا "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (لا یقتضی) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب مثل یا ئی مجرد از ضماہ بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیر "ا"

فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (الا) حرف استثناء (متعلقاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "موصوف (واحداً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ طیلید ہوا۔

"فلا يتعدى الالى مفعول واحد"

ترجمہ: پس صرف ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (لا يتعدى) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب معتل الفی مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (الا) حرف استثناء (الی) حرف جار (مفعول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا كان الامر كذلك) کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"والواحد المشترك بينهما هو زعمت"

ترجمہ: اور (یہ افعال قلوب میں سے) ایک جو شک اور یقین کے درمیان مشترک ہے وہ زعمت ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الواحد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (المشترک) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (بین) ظرف مکان منصوب لفظاً "مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتداء (هو) ضمیر فصل لائل لہا من الاعراب (زعمت) مراد لفظ مرفوع محلا "خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل زعمت اللہ غفوراً"

ترجمہ: جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا یقین کیا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (زعمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (اللہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ اول (غفوراً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فہو للیقین"

ترجمہ: پس یہ زعم . معنی یقین کے ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلیہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً "مبتداء (لام) حرف جار (الیقین) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وزعمت الشیطان شکوراً"

ترجمہ: اور میں نے شیطان کو معمولی بات پر راضی ہونے والا گمان کیا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (زعمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (الشیطان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ اول (شکوراً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"فہو للشک"

ترجمہ: پس یہ زعم . معنی شک ہے یعنی گمان۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلیہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً "مبتداء (لام) حرف جار (الشک) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وفی ہذہ الافعال لایجوز الاقتصار علی احد المفعولین لانہما کاسم واحد لان المفعولین معاً مفعول بہ فی الحقیقۃ"

ترجمہ: ان افعال قلوب میں اقتصار دو مفعولوں میں سے ایک پر جائز نہیں ہے اس لئے کہ دونوں اسم واحد کی طرح ہیں کیونکہ کا



مضمون ایک ساتھ مفعول بہ ہوا کرتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (ہذہ) اسم اشارہ مبنی بر کسر مجرور محلاً "موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (لابجوز) فعل متوخر کے (لابجوز) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (الاقصار) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مصدر (علی) حرف جار (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (المفعولین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (الاقصار) مصدر کے (الاقصار) مصدر اپنے متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہا) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (کاف) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (ثابتان) اسم فاعل مقدر کے (ثابتان) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (مضمون) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (معا) ظرف زمان منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا

یا (مضمون) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی (راجع بسوئے المفعولین) مجرور محلاً "ذوالحال (معا) اسم ظرف . معنی (مجتمعاتین) منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مضمون) مضاف کا (مضمون) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (مفعول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (ب) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی (باعتبار محل قریب راجع بسوئے شیء موصوف مقدر) مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق اول ہے اسم مفعول کا (باعتبار محل بعید مرفوع محلاً "نائب فاعل) (نی) حرف جار (الحقیقۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ثانی ہے (مفعول) اسم مفعول کا (مفعول) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں مسطوقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے (شیء)

(ء) موصوف محذوف کی (شیء) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتادیل مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (ثابتان) اسم فاعل کے (ثابتان) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتادیل مفرد ہو کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (الابجوز) فعل کے (الابجوز) فعل اپنے فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"و هو مصدر المفعول الثاني المضاف الى المفعول الاول"

ترجمہ: اور وہ یعنی مضمون اس کا مفعول ثانی کا مصدر ہے جو مفعول اول کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً "بتداء (مصدر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (الثانی) معرف باللام اسم مقوم رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مجرور تقدیراً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مصدر) مضاف کا (مصدر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "موصوف (المضاف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً " نائب فاعل (الی) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (المضاف) اسم مفعول کے (المضاف) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "صفت ہے (مصدر) موصوف کی (مصدر) موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اذ معنی علمت زیداً فاضلاً" علمت فضل زید"

ترجمہ: اس لئے علمت زیداً "فاضلاً" کے معنی علمت فضل زید کے ہیں۔

ترکیب ○ (از) طیلیہ (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مرفوع تقدیراً "مضاف (علمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم بینی بر سکون مرفوع محلاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول اول (فاضلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے معنی مضاف کا معنی مضاف اپنے

مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیراً "بتداء (علمت) بمعنی (عرفت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مثنیٰ بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (فعل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے (فعل) مصدر مضاف کا (فعل) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فلو حذف احدھما كان كحذف بعض اجزاء الكلمة الواحدة"

ترجمہ: پس دو مفعولوں میں سے ایک کو حذف کر دیا جائے تو ایسا ہی ہوگا جیسے ایک کلمہ کے بعض اجزاء کو حذف کر دیا جائے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصییدہ (لو) حرف شرط (حذف) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب مثنیٰ بر فتح مرفوع محلاً "فعل (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے فعل مجہول کا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مثنیٰ بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر دو مستقر مرفوع محلاً "اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (کتاب) حرف جار (حذف) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ (اجزاء) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (الكلمة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الواحدة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (اجزاء) مضاف کا (اجزاء) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (بعض) مضاف کا (بعض) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (حذف) مصدر مضاف کا (حذف) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً "خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"واذا توسطت هذه الافعال بين مفعوليهما او تاخرت عنهما جاز ابطال عملهما"

ترجمہ: اور جب یہ افعال قلوب اپنے دونوں مفعولوں کے وسط میں داخل ہوں یا مؤخر ہوں تو ان افعال کے عمل کو باطل کر دینا جائز ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (اذا) ظرف زمان مبنی بر سکون منصوب محلاً "مضاف مضمن ہے معنی شرط کو (توسط) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (عند) اسم اشارہ مبنی بر کسر مرفوع محلاً "موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً "فاعل (بین) ظرف مکان منصوب لفظاً "مضاف (مفعول) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (بین) مضاف کا (بین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (آخرت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (عن) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً "مفعول فیہ مقدم ہے قائم مقام شرط کے (جاز) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (ابطال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (عمل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (ابطال) مضاف کا (ابطال) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے (جاز) فعل کا (جاز) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قائم مقام ہے جزاء کے شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل زید ظننت قائم وزیداً" ظننت قائماً" وزید قائم ظننت وزیداً قائماً" ظننت" ترجمہ جیسے زید نسبت قائم میں نسبت کا عمل باطل ہے۔ اور زیداً "نسبت قائماً" میں اور زید قائم نسبت میں مفعول کو مقدم لایا گیا ہے اور نسبت کا عمل باطل کر دیا گیا ہے اور زیداً "قائماً" نسبت تقدیم مفعول کے ساتھ عمل کو باقی رکھنے کی مثال ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "بتداء (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(ظننت) فعل ماضی معلوم واحد تکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً فعل از افعال قلوب (ملغی عن العمل) ساتھ ضمیر یارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (زیداً) اسم مفرد منصرف

صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ اول مقدم (ظننت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل از افعال قلوب ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (قائما)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول

(داو) حرف عاطفہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

(ظننت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً فعل از افعال قلوب (ملتی عن العزل) ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (داو) حرف عاطفہ (زید)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ اول (قائما)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ثانی (ظننت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل از افعال قلوب ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث ہے (ظننت) معطوف علیہ کا (ظننت) معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فاعمالها وابطالها حیثئذ متساویان"

ترجمہ: پس ان کو عمل دینا اور ان کے عمل کو باطل کر دینا اس وقت دونوں برابر ہیں۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحہ (اعمال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف علیہ (داو) حرف عاطفہ (ابطال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (حین) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (از) مبنی بر سکون مجرور محلاً" مضاف الیہ مضاف (کلن کذا) جملہ محذوفہ مضاف الیہ ہے (از) مضاف کا (از) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا ("از" پر جو تین مکسور دی گئی ہے اس تین کو تین عوض کہتے ہیں یہ تین جملہ محذوفہ

کے عوض میں آئی ہے اصل میں عبارت یوں تھی (حین اذاکان کذا) باقی جملہ حذف کر کے "اذا" پر تین دے دی گئی ہے) (حین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ مقدم ہے (متساویان) اسم فاعل مؤخر کا (متساویان) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (ھا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وقال بعضهم ان اعمالها لولئی علی تقدیر التوسط وابطالها لولئی علی تقدیر التاخر" ترجمہ: اور بعض نحویوں نے کہا ہے کہ توسط فعل کی صورت میں ان کو عمل دینا اولیٰ ہے اور تاخر فعل کی صورت میں ابطال انب

تربہ۔  
 ترکیب (داو) حرف عاطفہ (قال) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (بعض) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (هم) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا قول تقاضا کرتا ہے مقولہ مفعول بہ کا (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (اعمال) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "معطوف علیہ (داو) حرف عاطفہ (ابطال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (اولیٰ) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر "اسم غفیل (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (علی) حرف جار (تقدیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (التوسط) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم غفیل کے اسم غفیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع تقدیر "مضاف علیہ (داو) حرف عاطفہ (اولیٰ) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر "اسم غفیل (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (علی) حرف جار (تقدیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (التاخر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم غفیل کے اسم غفیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع تقدیر "معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع تقدیر "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی

(ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلا "مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"واذا زیدت الهمزة في اول علمت ورايت صارا متعديين الي ثلثة مفاعيل"

ترجمہ: اور جس وقت علمت اور رايت کے اول میں ہمزه بڑھائی جائے تو اس صورت میں یہ دونوں تین مفعولوں کی طرف متعدي ہو جائیں گے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (اذا) ظرف زمان مبنی بر سکون منصوب محلا "مضاف مضمّن ہے معنی شرط کو (زیدت) فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظا "نائب فاعل (نی) حرف جار (اول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظا "مضاف (علمت) مراد لفظ مجرور محلا "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (رايت) مراد لفظ مجرور محلا "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلا "مفعول فیہ مقدم قائم مقام ہے شرط کے (صارا) فعل ماضی معلوم تشبیہ مذکر غائب مبنی بر سکون فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو ساتھ ضمیر بارز (الف) مرفوع متصل کے مرفوع محلا "اسم ہے فعل ناقص کا (متعدیین) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے منصوب لفظا "اسم فاعل (حا) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلا "فاعل (الی) حرف جار (ثلاثة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظا "اسم عدد مبہم میتر مضاف طلب کرتا ہے تیز مجموع مجرور کو (مفاعیل) غیر منصرف جمع متنی المجموع قائم مقام دو سیوں کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مجرور حکما مضاف الیہ تیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تیز سے مل کر مجرور لفظا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظا "خبر ہے (صار) فعل ناقص کی (صار) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قائم مقام ہے جزاء کے شرط اپنی جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"نحو اعلمت زیدا عمروا فاضلا" ورايت عمروا "خالدا" عالما"

ترجمہ: جیسے خبردی میں نے زید کو عمرو فاضل ہے اور بتایا میں نے عمرو کو خالد عالم ہے۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظا "مضاف (اعلمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا "فاعل (زیدا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظا "مفعول بہ

اول (عمروا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ جانی (خالدا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ جانی" ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (ارایت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی برکون مرفوع عملاً "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع عملاً" فاعل (عمروا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ اول (خالدا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ جانی (خالدا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ جانی" ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور عملاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فزید فیہما بسبب الہمزۃ مفعول اخر لان الہمزۃ للتصییر"

ترجمہ: ان دونوں (فعلوں) میں ہمزہ کے بوجھنے کی وجہ سے ایک تیسرا مفعول بڑھ گیا اس لئے یہ ہمزہ (باب افعال کا) حیر کے لئے ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف ضمیمہ (زید) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع عملاً "فعل (فی) حرف جار (ہما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (ب) حرف جار (سبب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الہمزۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (مفعول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (اخر) غیر منصرف بسبب و منفیت اور وزن فعل کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الہمزۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (لام) حرف جار (التصییر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مفرد ہو کر مجرور عملاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور تینوں مسطوفوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔



”فمعنی المثال الاول حملت زيدا“ علی ان يعلم عمرو“ فاضلا“  
ترجمہ: چنانچہ مثال اول کے معنی ہیں میں نے زید کو اس پر ابھارا کہ وہ جان لے کہ عمرو فاضل ہے۔  
فائدہ: بعض نسخوں میں حملت کے بجائے جعلت ذکر کیا گیا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نفیہ (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر“ مضاف (المثال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر“ ابتداء (حملت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً“ فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً“ فاعل (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ (علی) حرف جار (ان) حرف نائبہ عاملہ در مضارع (یعلم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ اول (فاضلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و معنی المثال الثانی حملت عمرو“ علی ان يعلم خالداً“ عالماً“

ترجمہ: دوسری مثال کے معنی ہیں میں نے عمرو کو اس پر ابھارا کہ وہ جان لے کہ خالد عالم ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیر“ مضاف (المثال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ موصوف (الثانی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر“ ابتداء (حملت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً“ فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً“ فاعل (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ (علی) حرف جار (ان) حرف نائبہ عاملہ در مضارع (یعلم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ اول (خالداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ اول (علماً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل قلب اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمہ خبریہ ہوا۔

"وذلك مخصوص بهذين الفعلين دون اخواتهما"

ترجمہ: اور یہ ہمزہ کی زیادتی ان ہی دو فعلوں کے ساتھ مخصوص ہے ان کے اخوات (دیگر افعال قلوب) میں یہ زیادتی جائز نہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ذکر) اسم اشارہ مبنی بفتح مرفوع محلاً" اسم ہے (الهمزة) مشار الیہ محذوف کا (الهمزة) مشار الیہ محذوف اپنے اسم اشارہ سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء یا (ذا) اسم اشارہ مبنی برسکون مرفوع محلاً" مبتداء (واللام للبعد والكاف للخطاب) (مخصوص) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ب) حرف جار (هذین) اسم اشارہ تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" موصوف (الفعلین) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے (دون) طرف زمان (معنی سوی) برائے استثناء منصوب لفظاً" مضاف (اخوات) جمع مؤنث سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (دون) مضاف کا (دون) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

فائدہ (اسم اشارہ) اور اسم موصول کا تشبیہیہ معرب ہوتا ہے۔ جیسے هذان - هذین - النان - الذین + ذانک - ذینک)

"وهذا مسموع من العرب"

ترجمہ: اور یہ ہمزہ کا دخول عرب سے سنا گیا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ها) حرف تشبیہیہ (ذا) اسم اشارہ مبنی برسکون مرفوع محلاً" اسم اشارہ ہے دخول الهمزة مشار الیہ محذوف کا (دخول الهمزة) مشار الیہ محذوف اپنے اسم اشارہ سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء یا (ها) حرف تشبیہیہ (ذا) اسم اشارہ مبنی برسکون مرفوع محلاً" مبتداء (مسموع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (من) حرف جار (العرب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر

سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”خلافا“ للاحفش

ترجمہ: اس میں علامہ الحفش کا اختلاف ہے۔

ترکیب ○ (خلافا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً“ موصوف (لام) حرف جار (الاحفش) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول مطلق ہے (خالف) فعل محذوف کا (خالف) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی فتح مرفوع محلاً“ فعل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال۔

”خولف هذا القول خلافا“ للاحفش

ترکیب ○ (خولف) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب جہی فتح مرفوع محلاً“ فعل (هذا) اسم اشارہ جہی بر سکون مرفوع محلاً“ موصوف (القول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً“ نائب فاعل (خلافا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً“ موصوف (لام) حرف جار (الاحفش) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول مطلق ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

تیسرا احتمال

خلافا“ للاحفش

ترکیب ○ (خلافا) منصوب لفظاً“ مصدر (مخالفاً) (لام) حرف جار (الاحفش) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (خلافا) مصدر کے (خلافا) مصدر اپنے متعلق سے مل کر منصوب لفظاً“ حال ہے (اقول هذا) ذوالجمل محذوف کا (اقول) فعل مضارع معلوم واحد متکلم صحیح مجرور از حناز بارزہ مرفوع لفظاً“ فعل (انا) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً“ ذوالجمل ہے (خلافا“ للاحفش) حال کا (انا) ضمیر ذوالجمل اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر قول ہوا۔ (ها) حرف تنبیہ (ذا) اسم اشارہ جہی بر سکون منصوب محلاً“ مقولہ مفعول بہ ہے قول کا قول اپنے مقولہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

”فانه اجاز زیادة الهمزة فی جمیع هذه الافعال قیاسا“ علی اعلمت ورایت“  
ترجمہ: کیونکہ علامہ الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمزہ کی زیادتی کو ان تمام افعال قلوب میں جائز مانا ہے اعلمت اور ارایت پر قیاس کرتے ہوئے۔

ترکیب ○ (ف) حرف طیلیہ (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا ”اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (اجاز) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا“ فعل (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلا ”فاعل (زیادة) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا“ مضاف (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے مجرور لفظا“ مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ (نی) حرف جار (جمع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا“ مضاف (هذه) اسم اشارہ مبنی بر کسر مجرور محلا ”موصوف (الافعال) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور محلا ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظا“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ متعلق ہے (زیادة) مصدر کے (زیادة) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ اور متعلق سے مل کر منصوب لفظا“ مفعول بہ ہے (اجاز) فعل کا (قیاسا) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا مصدر (علی) حرف جار (اعلمت) مراد لفظ مجرور محلا ”معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ارایت) مراد لفظ مجرور محلا“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلا ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ متعلق ہے (قیاسا) مصدر اپنے متعلق سے مل کر منصوب لفظا“ مفعول لہ ہے (اجاز) فعل کا (اجاز) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول لہ سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا ”خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ طیلیہ ہوا۔

”نحو اظننت واحسبت واوحدت واووجدت ولزعمت زیدا“ عمروا“ فاضلا“

ترجمہ: جیسے گمان کیا میں نے اور معلوم کیا میں نے اور خیال دلایا میں نے اور بتلایا میں نے اور گمان کرایا میں نے زید کو عمروا کا فاضل ہونا۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظا“ مضاف (اظننت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا ”فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (احسبت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا ”فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (اوحدت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا ”فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (اووجدت) فعل ماضی معلوم

واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (از عمت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا" فاعل (زیداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ اول (عمرواً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ثانی (فاضلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ثالث ہے فعل قلب کا فعل قلب اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وآبنا ونبأ وخبر وحدث تتعدى الى ثلاثة مفاعيل"

ترجمہ: اور آنا اور خبر اور خبر اور حدث بھی تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (انبا) مراد لفظ مرفوع محلا "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (نبا) مراد لفظ مرفوع محلا" معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (اخر) مراد لفظ مرفوع محلا "معطوف ثانی (واو) حرف عاطفہ (خبر) مراد لفظ مرفوع محلا" معطوف ثالث (واو) حرف عاطفہ (حدث) مراد لفظ مرفوع محلا "معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر مرفوع محلا" مبتداء (تتعدى) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب معتل الفی مجرد از نماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً "فعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الی) حرف جار (ثلاثة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "اسم عدد مجہم ممیز مضاف (مفاعیل) غیر منصرف جمع منتہی المجموع قائم مقام دو سیوں کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مجرور حکماً مضاف الیہ تمیز ہے ممیز مضاف کی ممیز مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ایضاً

ترکیب ○ (ایضاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول مطلق ہے (آخر) فعل محذوف کا (آخر) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا۔

"اعلم انه لا يجوز حذف المفعول الاول من المفاعيل الثلاثة"

ترجمہ: جان لے تو کہ مفاعیل ثلاثہ میں سے مفعول اول کا حذف کسی حال میں جائز نہیں۔

ترکیب ○ (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر بنی بر سکون مرفوع محلاً "فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی (راجع بسوئے ما بعد ای حذف المفعول الاول) منصوب محلاً "اسم ہے ان مشبہ بالفعل کا (لا يجوز) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (حذف) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (من) حرف جار (الغائب) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (الثلاثه) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل (لا يجوز) کے فعل (لا يجوز) اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مرفوع محلاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر تاویل مصدر منصوب محلاً "مفعول بہ قائم مقام دو مفعولوں کے (اعلم) فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

"لکن يجوز حذف المفعولين الاخرين معا" ولا يجوز حذف احدهما بدون الاخر"

ترجمہ البتہ مفعولین آخرین کا حذف معا" جائز ہے اور دونوں میں سے ایک کا حذف بغیر دوسرے کے جائز نہ ہوگا۔

ترکیب (لکن) برائے استدراک۔ مخفف ہے (لکن) مشبہ بالفعل کا ملغی عن العمل (يجوز) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (حذف) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (المفعولين) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جزم ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" موصوف (الآخرین) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جزم ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مضاف (معا) ظرف زمان منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (لا يجوز) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (حذف) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے

مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی" مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (ب) حرف جار (دون) طرف زمان مجرور لفظاً "مضاف (الآخر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (لابجوز) فعل کے (لا بجوز) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے (بجوز حذف المفعولین الاخیرین معاً) معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا

کما مر

ترجمہ جیسا کہ گزر چکا ہے۔

ترکیب (کاف) حرف جار (نا) اسم موصول (مر) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے (حذا) مبتدا محذوف کی (حذا) مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تم النوع الثالث عشر و عوامل سماعیہ بحمد اللہ تعالیٰ

## الاول من العوامل القیاسیہ الی الفعل

"اما القیاسیة فسبعة عوامل"

ترجمہ: بہر حال قیاسی عوامل سات ہیں۔

ترکیب ○ (ا) حرف شرط و تفصیل جواب شرط محذوف و جواباً "القیاسیة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مبتداء (مضمّن ہے معنی شرط کو) (ف) حرف جزائیہ (سبعة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم عدد مجسم میتر مضاف طلب کرتا ہے تمیز مجموع مجرور کو (عوامل) غیر منصرف جمع متبنی المجموع قائم مقام دو سیوں کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مجرور محلاً "مضاف الیہ تمیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی (مضمّن ہے معنی جزاء کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا) مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"الاول منها الفعل مطلقاً"

ترجمہ: ان عوامل قیاسیہ میں پہلا عامل فعل ہے "مطلقاً"

ترکیب ○ (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (العامل) موصوف محذوف کی (العامل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "ذوالجلال (من) حرف جار (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً "حال ہے ذوالجلال کا ذوالجلال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً "بتداء (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "ذوالجلال (مطلقاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "حال ہے ذوالجلال کا ذوالجلال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مبنیہ ہوا۔

"سواء کان لازماً" او متعدیاً "ماضیاً" کان لو مضارعاً "امر" کان لو نہیاً"

ترجمہ: خواہ وہ فعل لازم ہو یا متعدی ہو یا ماضی ہو یا مضارع "امر ہو یا نہی ہو۔

ترکیب ○ (سواء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "خبر مقدم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (لازم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف علیہ (او) حرف عطفہ (متعدیاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً "خبر مقدم (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاول مفرد ہو کر مرفوع محلاً بتداء اول ہے سواء خبر مقدم کا (ماضیاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف علیہ (او) حرف عطفہ (مضارعاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً "خبر مقدم ہے (کان) فعل ناقص مؤخر کی (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاول مفرد ہو کر مرفوع محلاً "بتداء ثانی ہے (سواء) خبر مقدم کا (امر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف علیہ (او) حرف عطفہ (نہیاً) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً خبر مقدم ہے (کان) فعل ناقص مؤخر کی (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاول مفرد ہو کر مرفوع محلاً "بتداء ثالث ہے سواء خبر مقدم کا تینوں بتداء مؤخر اپنی (سواء) خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔



”کل فعل یرفع الفاعل“

ترجمہ: ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے۔

ترکیب ○ (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً” مضاف (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً” مبتداء (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً” فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً” فاعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً” مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً” خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”نحو قام زید و ضرب زید“

ترجمہ: جیسے قام زید یعنی زید کھڑا ہوا۔ (یہ فعل لازمی کی مثال ہے) اور ضرب زید یعنی مارا زید نے (یہ فعل متعدی کی مثال ہے)

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً” مضاف (قام) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً” فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً” فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ضرب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً” فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً” فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً” مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً” خبر ہے مبتداء محذوف (مثالہ) کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”واما اذا كان متعديا“ فی نصب المفعول بہ“

ترجمہ: اور اگر فعل متعدی ہو تو مفعول کو بھی نصب دیتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (اما) حرف شرط و تفصیل جواب شرط محذوف ہے و جواباً” (اذا) ظرف زمان مبنی بر سکون منصوب محلاً” مضاف (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً” فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً” اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (متعدیا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً” خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً” مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً” مفعول فیہ مقدم (ف) حرف جزائیہ (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ

سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ال) اسم موصول . معنی (الذی) (مفعول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "اسم مفعول (ب) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" (باعتبار محل قریب) مرفوع (باعتبار محل بعید نائب فاعل) جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو اور نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے طرف لغو اور نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر منصوب محلاً" مفعول بہ فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ قطیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

ایضاً

ترکیب ○ (ایضاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول مطلق ہے (آض) فعل محذوف کا (آض) فعل ماضی معلوم واحد مذکر عائب جنی فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ قطیہ خبریہ معترضہ ہوا۔

"مثل ضرب زید عمرواً"

ترجمہ: جیسے مارا زید نے عمرو کو

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ضرب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر عائب جنی فتح مرفوع محلاً" فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "فاعل (عمرواً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ قطیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی "مثلاً" مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل بخلاف المفعول"

ترجمہ: اور فاعل کی تقدیم اپنے فعل پر جائز نہیں بخلاف مفعول کے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (لا يجوز) فعل مضارع معلوم واحد مذکر عائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (تقديم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "ذوالحل (ب) حرف جار (خلاف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی

کے ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (علی) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"فان تقدیمہ علیہ جائز"

ترجمہ: کیونکہ مفعول کی تقدیم فعل پر جائز ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف طیلیہ (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (تقدیم) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ منصوب معنی" مفعول بہ (علی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (تقدیم) مصدر کے (تقدیم) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (جائز) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معللہ ہوا۔

"ولا يجوز حذف الفاعل بخلاف المفعول"

ترجمہ: اور فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے بخلاف مفعول کے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (لايجوز) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (حذف) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً ذوالحال (ب) حرف جار (خلاف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے (لايجوز) فعل کا (لايجوز) فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”فان حذفہ جائز“

ترجمہ: کیونکہ اس کے مفعول کو حذف کرنا جائز ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف طیلیہ (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (حذف) مصدر متحدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً ”مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ سے مل کر منصوب لفظاً“ اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (جائز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”نحو ضرب زید“

ترجمہ: جیسے مارا ہے زید نے۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ضرب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر عائب بنی فتح مرفوع محلاً“ فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء محذوف (مثلاً) کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

تم الاول من العوامل القیاسیة الفعل بحمد الله تعالى

## الثانی من العوامل القیاسیة المصدر

”والثانی المصدر“

ترجمہ: دوسرا (عال قیاسی) مصدر ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثانی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مرفوع تقدیر ”صفت ہے (العال) موصوف محذوف کی (العال) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع تقدیر ”مبتداء (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و هو اسم حدث ان اشتق منه الفعل“

ترجمہ اور مصدر نام ہے حدث کا جس سے فعل مشتق ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلا "بتداء (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (حدث) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (اسم) مضاف کا (اسم) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" موصوف (الشتق) فعل ماضی مجول واحد مذکر غائب جہی بی فتح مرفوع محلا "فعل (من) حرف جار (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وانما سمي مصدرا" لصدور الفعل عنه"

ترجمہ: اس کا نام مصدر اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سے فعل کا صدور ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (انما) کلمہ حصر مرکب از "ان" اور "ما" کافہ عن العمل لا محل لها من الاعراب (سمی) فعل ماضی مجول واحد مذکر غائب جہی بی فتح مرفوع محلا "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (مصدرا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (لام) حرف جار (مصدور) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل (من) حرف جار (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق (مصدور) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"فیكون محلا" له" ترجمہ: تو اس اعتبار سے یہ محل صدور فعل ہوا۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیہ (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضماہ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (محلا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (لام) حرف جار (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (یکون) فعل ناقص کے (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا صدر الفعل عنه) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”قال البصريون ان المصدر اصل والفعل فرع لاستقلاله بنفسه وعدم احتياجه الى الفعل بخلاف الفعل“  
ترجمہ: بصرین کا قول ہے کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کے فرع ہے کیونکہ مصدر مستقل بنفسہ ہے اور (افائدہ معنی میں) فعل کا تعلق نہیں بخلاف فعل کے۔

### تحقیق ○

بصری (بکسر باء) منصوب الی البصرہ یعنی نحاۃ بصرہ کا یہ قول ہے نحاۃ بصرہ میں ”علامہ خلیل بن احمد“ اور ”علامہ سیبویہ“ اور ”علامہ اخفش“ اور ”علامہ یونس“ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم وغیرہ

ترکیب ○ (قول) فعل ماضی معلوم واحد مذکر عتاب معنی فریح مرفوع محلا ”فعل (البصريون) معرف باللام جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ما قبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مکسور کے مرفوع لفظاً ”فاعل (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً ”معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً ”معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً ”اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کلاصل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (فرع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً ”معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً ”خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلا ”مقوله مفعول بہ (لام) حرف جار (استقلال) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا ”ذوالجمل (ب) حرف جار (خلاف) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف الیہ (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ ہے (خلاف) مصدر مضاف کا (خلاف) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا ”حال ہے ذوالجمل کا ذوالجمل اپنے حال سے مل کر مجرور محلا ”مضاف الیہ (ب) حرف جار (نفس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (استقلال) مصدر کے (استقلال) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً ”معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (عدم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا ”مضاف الیہ (الی) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار

اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (احتیاج) مصدر کے (احتیاج) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (عدم) مضاف کا (عدم) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے (لام) جار کا (لام) جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (قال) فعل کے (قال) فعل اپنے فاعل اور مقولہ مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"فانہ غیر مستقل بنفسہ و محتاج الی الاسم"

ترجمہ: کیونکہ وہ فعل (افادہ معنی میں) خود مستقل نہیں بلکہ اسم کا محتاج رہتا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف طیلیہ (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (مستقل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ب) حرف جار (نفس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً "صفت ہے (لفظ) موصوف مجزوف (لفظ) موصوف مجزوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (احتیاج) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (الی) حرف جار (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وقال الکوفیون ان الفعل اصل والمصدر فرع لاعلال المصدر باعلاله و صحته بصحته"

ترجمہ: اور کوفین کا قول ہے کہ فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے بوجہ معلول ہونے مصدر کے فعل کے معلول ہونے کے باعث اور بوجہ صحیح رہنے مصدر کے فعل کی صحت کے باعث (صحت اعلال کا مقابل ہے باعلالہ اور صحت کی باسبہ ہے)

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (قال) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً "فعل (الکوفیون) معرف باللام جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل کسور کے مرفوع لفظاً "فاعل (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ

لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (اصل) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (فرع) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر منصوب محلاً مقولہ مفعول بہ (لام) حرف جار (اعلال) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ (ب) حرف جار (اعلال) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (اعلال) مصدر کے (اعلال) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (صححة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل (ب) حرف جار (صححة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (صححة) مصدر کے (صححة) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مقولہ مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"نحو قام قیاما" و "قاوم قواما"

ترجمہ: جیسے قام، قیاما اور قوام قواما۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصوب جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (قام قیاما) مراد لفظ مجرور محلاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اعل قیاما" بقلب الولو فیہ یاء" لقلب الولو الفاء" فی قام"

ترجمہ: تعلیل کی گئی قیاما میں اس کے واو کو یاء سے تبدیل کر دیا گیا اس لئے کہ قام میں واو کو الف سے بدلا گیا۔



ترکیب ○ (اعل) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب بینی فتح مرفوع محلا "فعل (قیاما)" حکایت مرفوع محلا "یا تقدیرا" علی اختلاف القولین یا مراد لفظ مرفوع محلا "نائب فاعل (ب) حرف جار (قلب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الواو) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اول ہے (قلب) مصدر کا (نی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی (راجع بسوئے قیاما) باعتبار اصل) مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظی کے (قلب) مصدر کے (یاء") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ثانی ہے (قلب) مصدر کا (لام) حرف جار (قلب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الواو) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اول ہے (قلب) مصدر کا (الفا") معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً "مفعول بہ ثانی ہے (قلب) مصدر کے (نی) حرف جار (قام) مراد لفظ مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظی کے (قلب) مصدر کے (قلب) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لفظی کے (قلب) مصدر کے (قلب) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی اور دونوں متعلقوں سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف متعلق ہے (متلبسا") اسم فاعل محذوف کے (متلبسا") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "صفت ہے (اعلالا") موصوف محذوف کی (اعلالا") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً "موصوف ہے صفت کا موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول مطلق ہے (اعل) فعل کا (اعل) فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"وصح قواما" لصحة قوام" ترجمہ: اور قواما میں واو کو بقی رکھا گیا ہے اس لئے کہ اس کے فعل یعنی قوام میں واو باقی ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (صح) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب بینی فتح مرفوع محلا "فعل (قواما)" حکایت اعراب مرفوع محلا "یا تقدیرا" یا مراد لفظ مرفوع محلا "فاعل (لام) حرف جار (صحة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (قلام) مراد لفظ مجرور محلا "مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لفظی کے نصب ساتھ ضمہ لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً "موصوف ہے صفت کا موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول مطلق ہے (اعل) فعل کا (اعل) فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”ولا شك ان دليل البصريين يدل على اصالة المصدر مطلقا“ و دليل الكوفيين يدل على اصالة الفعل في الاعلال“

ترجمہ: اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بصریوں کی دلیل مصدر کی مطلق اصالت کی رہنمائی کر رہی ہے اور کوفیوں کی دلیل فعل کی اصالت پر صرف بمعاظہ الاعلال رہنمائی کرتی ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (لا) نفی جنس کا ہے طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (شک) اسم نکرہ مفرد مبنی بر فتح منصوب محلا“ اسم ہے (لا) نفی جنس کا (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (دلیل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا“ مضاف (البصريين) معرف باللام جمع ذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے مجرور لفظا“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظا“ معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (دلیل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا“ مضاف (الكوفيين) معرف باللام جمع ذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے مجرور لفظا“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظا“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظا“ اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (یدل) فعل مضارع معلوم واحد غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کو نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (علی) حرف جار (اصالة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا“ ذوالحال (مطلقا“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا“ حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور لفظا“ مضاف (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا“ مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل سے مل کر مجرور لفظا مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یدل) فعل مضارع معلوم واحد ذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (علی) حرف جار (اصالة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا“ مضاف (المتعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا“ مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل سے مل کر مجرور لفظا“ ذوالحال (نی) حرف جار (الاعلال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظا“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلا“ خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتولید مفرد ہو کر مرفوع محلا“ خبر ہے

(لا) نفی جنس کی (لا) نفی جنس کا اپنے اسم اور خبر سے مل کر اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال ○

”ولا شك ان دليل البصريين يدل على اصاله المصدر مطلقا“ و دليل الكوفيين يدل على اصاله الفعل في الاعلال“

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (لا) نفی جنس کا طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (شک) اسم نکرہ مفرد مبنی بر فتح منصوب محلا“ اسم ہے لانی جنس کا (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (دلیل) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً“ مضاف (البصريين) معرف باللام جمع ذکر سالم مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (دلیل) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً“ مضاف (الكوفيين) معرف باللام جمع ذکر سالم مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ معطوف علیہ کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کلیدیں) فعل مضارع معلوم واحد ذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ (مطلقاً) اسم منصرف صحیح منصوب لفظاً“ حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلا“ فاعل (علی) حرف جار (اصالة) مصدر لازمی مجرور لفظاً“ مضاف (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً“ مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ نعید خبریہ ہو کر مرفوع محلا“ معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یدل) فعل مضارع معلوم واحد ذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (علی) حرف جار (اصالة) مصدر لازمی مجرور لفظاً“ مضاف (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً“ مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل (نی) حرف جار (الاعلال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (اصالة) مصدر کے (اصالة) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ نعید خبریہ ہو کر مرفوع محلا“ معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلا“ خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہتویں مفرد ہو کر مرفوع محلا“ خبر (لا) نفی جنس کی (لا) نفی جنس کا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فلا تلزم منه اصالته مطلقا“

ترجمہ: اس سے علی الاطلاق فعل کی اصالت لازم نہیں آتی۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحو (لا تلزم) فعل مضارع منفی معلوم واحد ذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل (من) حرف جار (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (اصالة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم

ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" ذوالحل (مطلقاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحل کا ذوالحل اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (لذا دل دلیل الکوفیین علی اصالة الفعل فی الاعلال) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

دوسرا احتمال "فلا تلزم منه اصلته مطلقاً"

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (لا تلزم) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً" فعل (من) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (اصالة) مصدر لازمی مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (مطلقاً) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" صفت ہے (لروما) موصوف محذوف کی (لروما) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (لذا دل دلیل الکوفیین علی اصالة الفعل فی الاعلال) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"ولو كان هذا القدر يقتضى الاصله يلزم ان يكون يعد بالياء و اكرم متكلمنا بالهمزة اصلا" و باقى الامثلة فرعا" ولا قائل به احد"

ترجمہ: اور اگر (اصالت و فرعیّت کے لئے) صرف اتنی بات (کہ ایک کے اعلال سے دوسرے میں اعلال ہو جایا کرے) اصالت کا تقاضا کرے تو پھر لازم آئے گا کہ یہ عد بالیاء اور اكرم بالهمزة واحد متکلم اصل ہوں اور باقی تمام مثالیں صیغہ فرع ہوں۔ اور اس بات کا علمائے صرف میں سے کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (و) حرف شرط غیر جازم (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هذا) اسم اشارہ جہی بر سکون مرفوع محلاً" موصوف (القدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع محلاً" اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (بقتضی) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب متصل یا بی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیر" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الاصالة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً" خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (یلزم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع

ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (إن) حرف نامہ علامہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از نماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (یعد) مراد لفظ مرفوع محلاً" ذوالجمل (ب) حرف جار (الیاء) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالجمل کا ذوالجمل اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اکرم) مراد لفظ مرفوع محلاً" ذوالجمل (متکلماً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال اول (ب) حرف جار (الهمزة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ثانی ہے (اکرم) ذوالجمل کا ذوالجمل اپنے دونوں حالوں سے مل کر مرفوع محلاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یاتی) اسم مقنوس رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع تقدیراً" مضاف (الامثله) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیراً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (اصلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (فرعاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویں مفرد ہو کر مرفوع محلاً" ذوالجمل (واو) حرف حالیہ (لا) حرف نفی غیر عامل (فائل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" مبتداء (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منصوب محلاً" حال ہے ذوالجمل کا ذوالجمل اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" فاعل ہے (یلزم) فعل کا (یلزم) فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

(اصل عبارت یوں تھی۔ (صیغۃ متکلم) مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا اور مضاف کا اعراب نصب مضاف الیہ کو دے دیا۔ در حقیقت حال (صیغۃ متکلم) ہے ورنہ (متکلماً) کا حال بننا درست نہیں۔ قال

”ولا قائل به احد“

ترجمہ: جبکہ اس بات کا علم صرف میں سے کوئی قائل نہیں (کہ یہاں اصالت اور فریعت کی صورت ہے) تنبیہ (ولا قائل بہ احد) میں مذہب جمہور لاکونفی جنس کا قرار دینا درست نہیں ورنہ (قائل بہ) لفظاً منصوب ہوتا کیونکہ یہ نکرہ مشابہ مضاف ہے نکرہ مفرد نہیں اور رسم خط نصب کی مسامتت نہیں کرتا بلکہ یہ لائقی غیر عامل ہے اور (قائل) اسم فاعل مبتدا کی قسم دوم ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف حالیہ (لا) حرف نئی غیر عامل (قائل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (ب) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً مبتداء (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ حالیہ ہوا۔

تیسرا احتمال ○

”ولم یقل بہ احد“

ترجمہ: اور نہیں قائل ہوا اس کا کوئی ایک۔

ترکیب ○ (واو) حرف حالیہ (لم یقل) فعل مضارع نفی عمد معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً فعل (ب) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ حالیہ ہوا۔

”اعلم ان المصدر یعمل عمل فعلہ“

ترجمہ: جان لو کہ مصدر (غیر معرف باللام) عمل کرتا ہے اپنے فعل کا عمل۔

ترکیب ○ (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مثنیٰ بر سکون مرفوع محلاً فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (یعمل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (عمل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً مضاف (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جو ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی فاعل (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (عمل) مضاف کا (عمل) مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر منصوب لفظاً مفعول مطلق ہے فعل کا

فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر متاول مفرد ہو کر منصوب محلا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

"فان كان فعله لازما" فيرفع الفاعل

ترجمہ: پس اگر فعل (مصدر کا) لازم ہو تو صرف فاعل کو رفع کرے گا۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصییدہ (ان) حرف شرط و جازم (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجزوم محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظا "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا "اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (لازما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظا "خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

فقط = (فا) حرف جزائیہ (قط) . معنی "آنتہ" تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

"اذا رفع الفعل الفاعل فآنته عن جاعله غير رافع"

ترجمہ: جب تو رفع دے فعل کے فاعل کو تو رک جاہ غیر رافع سے۔

ترکیب ○ (اذا) ظرف زمان مبنی بر سکون منصوب محلا "مضاف مضمون ہے معنی شرط کے (رفع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظا "فاعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلا "مفعول فیہ مقدم قائم مقام شرط کے (ف) حرف جزائیہ (آنتہ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل (آنت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (عن) حرف جار (جمل) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظا "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظا "

مضاف (رافع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے مصدر کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل" فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قائم مقام ہے جزاء کے شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل اعجبنی قیام زید"

ترجمہ: جیسے زید کے کھڑا ہونے نے مجھ کو تعجب میں ڈال دیا۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اعجب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (نون) و قلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "مفعول بہ (قیام) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وان کان متعدیا" فی رفع الفاعل وینصب المفعول"

ترجمہ: اور اگر وہ فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔

ترکیب ○ (وان) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجرور محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (متعدیا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضماائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضماائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے



معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”نحو اعجبنی ضرب زید عمروا“

ترجمہ: جیسے مجھے زید کے عمرو کو مارنے نے تعجب میں ڈالا۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (اعجب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً ”فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً“ مفعول بہ (ضرب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مرفوع معنی ”فاعل (عمروا)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً مفعول بہ ہے (ضرب) مصدر کا (ضرب) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی ”فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”فزید فی المثالین مجرور لفظاً“ لاضافة المصدر الیہ و مرفوع معنی ”لانه فاعل“

ترجمہ: پس زید دونوں مثالوں میں اضافت مصدر کی بناء پر لفظاً مجرور ہے مگر فاعلت کی بناء پر معنی ”مرفوع ہے۔“

ترکیب ○ (ف) حرف نفیہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ذوالحال (نی) حرف جار (المثالین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (مجرور) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً ”نائب فاعل (لفظاً)“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً صفت ہے (جرا) موصوف محذوف کی (جرا) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً مفعول مطلق (لام) حرف جار (اضافة) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ (الی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (اضافة) مصدر مضاف کے (اضافة) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی ”مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مجرور) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً معطوف علیہ (دوا) حرف عاطفہ (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً اسم مفعول (هو) ضمیر درو

مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (معنی)" اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسروہ کے منصوب تقدیر "صفت ہے (رفعا") موصوف محذوف کی (رفعا") موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول مطلق (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتویل مفرد ہو کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو مطلق ہے (مرفوع) اسم مفعول کے (مرفوع) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال

"فزید فی المثالیین مجرور لفظاً" لاضافة المصدر الیہ مرفوع معنی "لانه فاعل"  
 ترکیب ○ (ف) حرف غصیلہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "مبتداء (نی) حرف جار (الثالیین) معرف باللام اسم تشبیہ مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق مقدم ہے (مجرور) اسم مفعول کا (مجرور) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "اسم مفعول ممیز (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (لفظاً)" اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً "تیمیز از نسبت اسم مفعول بنائب فاعل یا (لفظاً)" صفت ہے (جرا") موصوف محذوف کی اور (جرا") منصوب بنزع خافض (ای یجر لفظ --- ای ملفوظ) (جرا") موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار محذوف کا جار محذوف اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مجرور) اسم مفعول کے (هنا من حیث المعنی --- وان کان فیہ ارتکاب التقدیر) (لام) حرف جار (اضافہ) مصدر متعدی مجرور لفظاً "مضاف (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ (الی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (اضافہ) مصدر کے (اضافہ) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مجرور) اسم مفعول کے (مجرور) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور تمیز یا دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "اسم مفعول ممیز (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (معنی)" اسم مقصورہ منصوب تقدیر "تیمیز از نسبت اسم مفعول بنائب فاعل (لام) حرف جار (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتویل مفرد ہو کر مجرور محلا "مجرور جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مرفوع) اسم مفعول ممیز کے (مرفوع) اسم مفعول ممیز اپنے نائب فاعل اور تمیز اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وہو علی خمسۃ انواع“

ترجمہ: اور مصدر متعدی کا استعمال پانچ طرح پر ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہو) ضمیر مرفوع منفصل کی (راجع بسوئی المصدر المتعدی جو ماقبل سے مفہوم ہوتا ہے) مرفوع محلا ”بتداء علی“ حرف جار (خمسۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”اسم عدد مجہم میتر مضاف طلب کرتا ہے تمیز مجموع مجرور کو (انواع) جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مضاف الیہ تمیز ہے میتر مضاف کی میتر مضاف اپنے مضاف الیہ تمیز سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا ”خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”احدها ان یکون مضافاً الی الفاعل ویذکر المفعول منصوباً“ کالمثال المذكور“

ترجمہ: ایک صورت میں یہ ہے کہ مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول منصوب مذکور ہو جیسا کہ مثال مذکور (اعجبنی ضرب زید عمرواً) سے واضح ہے (زید فاعل کی طرف ضرب مصدر کی اضافت ہو رہی ہے اور عمرواً مفعول ہے جو لفظاً منصوب واقع ہے)

ترکیب ○ (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً ”بتداء (ان) حرف مصدریہ نائبہ عالمہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً ”فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا ”اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مضافاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا ”نائب فاعل (الی) حرف جار (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً ”مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً ”خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یذکر) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً ”فعل (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”ذوالحال (منصوباً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً ”اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا ”نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً ”حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً ”نائب فاعل (کاف) حرف جار (المثال) معرف باللام اسم

مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (المذکور) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و ثانیہ ان یکون مضافاً الی الفاعل ولم یدکر المفعول"

ترجمہ: اور دوسری صورت یہ ہے کہ مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول مذکور نہ ہو۔

تنبیہ (الم یدکر المفعول) کا (ان یکون) پر عطف قرار دینا درست نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ مبتداء کی خبر ہوگی اور مبتداء کی خبر جب جملہ ہو تو اس میں ضمیر عائد لازم ہے جو یہاں پر موجود نہیں اور نہ اس کی تقدیر ہی درست نظر براں عطف مذکور جائز نہیں فتلبیر

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ثانی) اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے مرفوع تقدیر "مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیر "مبتداء (ان) حرف مصدریہ نائبہ عاملہ در مضارع (یکون) فعل مضارع واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مضافاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً "اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "ذوالحال (الی) حرف جار (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مضافاً) اسم مفعول کا (مضافاً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف حالیہ (لم یدکر) فعل مضارع نفی مجد مجرور واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً "فعل (کسرو بسبب السقاء الساکین کے) (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر منصوب محلاً "حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً "نائب فاعل ہے (مضافاً) اسم مفعول کا (مضافاً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو عجب من ضرب زید"

ترجمہ: جیسے تعجب کیا میں نے زید کے مارنے سے (یہاں مفعول یعنی جس پر فعل ضرب واقع ہوا مذکور نہیں۔ اصل میں اعجب من

ان ضرب زید عمرو" تھا)۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (عجبت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم بنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (من) حرف جار (ضرب) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و نالشا ان یکون مضافاً الی المفعول حال کونہ مبنیاً" للمفعول القائم مقام الفاعل"  
ترجمہ: اور تیسری صورت یہ ہے کہ مصدر مضاف الی المفعول ہو اس حال میں کہ مصدر مبنی للمفعول ہو (اور) وہ مفعول قائم مقام فاعل کے واقع ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (خالث) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (ان) حرف مصدریہ نائبہ عاملہ در مضارع (کیون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کیون) فعل ناقص کا (مضافاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (الی) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مضافاً) اسم مفعول کے (حال) اسم ظرف منصوب لفظاً" مضاف (کون) مصدر ناقص رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی" اسم ہے (کون) مصدر ناقص کا (مبنیاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (لام) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (القائم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (مقام) اسم ظرف منصوب لفظاً" مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر

منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مہنیا) اسم مفعول کے (مہنیا) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کون) مصدر ناقص کی (کون) مصدر ناقص اپنے مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "اسم اور خبر سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (حال) مضاف کا (حال) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (مضافاً) اسم مفعول کا (مضافاً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کیون) فعل ناقص کی (کیون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو عجبیت من ضرب زید ای من ان یضرب زید"

ترجمہ: جیسے عجبیت من ضرب زید یعنی مجھے زید کے پٹے جانے پر تعجب ہوا۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (عجبیت) فعل ماضی معلوم واحد منکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (من) حرف جار (ضرب) مصدر مجہول رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "نائب فاعل ہے مصدر مجہول مضاف کا مصدر مجہول مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "نائب فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (من) حرف جار (ان) حرف مصدر نائب عاملہ در مضارع (یضرب) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے فعل مجہول کا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (عجبیت) فعل محذوف کے (عجبیت) فعل ماضی معلوم واحد منکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ورابعها ان یکون مضافاً الی المفعول ویذکر الفاعل مرفوعاً"

ترجمہ: اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مصدر مضاف الی المفعول ہو اور فاعل لفظوں میں مرفوعاً مذکور ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (رائح) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے

مرفوع لفظاً مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (ان) حرف مصدریہ نائب عاملہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مضافاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (الی) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسرو لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مضافاً) اسم مفعول کے (مضافاً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یذکر) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماں بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" ذوالحال (مرفوعاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً "نائب فاعل ہے فعل مجہول کا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو عجبت من ضرب اللص الجلاب"

ترجمہ: جیسے مجھے تعجب ہوا اپنے جانے سے چور کے جلاب کے ہاتھوں۔ (لص = چور مضروب ہے اور جلاب ضارب ہے اور "ضرب" مصدر مجہول ہے اس وجہ سے بعض نے فاعل کا تذکرہ جائز قرار نہیں دیا مگر "علامہ سیبویہ" جائز کہتے ہیں)

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (عجبت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل (من) حرف جار (ضرب) مصدر متعدی مجہول رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (اللس) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ (الجلاب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "نائب فاعل ہے مصدر مجہول کا مصدر مجہول مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور مل کر مرفوع لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و خامسہا ان یکون مضافاً الی المفعول ویحذف الفاعل“

ترجمہ: اور پانچویں صورت یہ ہے کہ مصدر مضاف الی المفعول ہو اور فاعل حذف کر دیا گیا ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (خامس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً” مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً” مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً” مبتداء (ان) حرف مصدر نامہ عاملہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً” فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً” اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مضافاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً” اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً” نائب فاعل (الی) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مضافاً) اسم مفعول کے (مضافاً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً” خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (یحدف) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً” فعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً” نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً” خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”نحو قوله تعالیٰ لا یسام الانسان من دعاء الخیر ای من دعائه الخیر“

ترجمہ: جیسے قول باری عزاسمہ انسان خیر کی طلب میں تنگہ دل اور لٹول نہیں ہوتا۔ (یہاں فاعل محذوف ہے اصل میں من دعائه تھا اور فاعل کو حذف کر کے مصدر کو الخیر مفعول کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ دعاء کے معنی طلب کر کے ہیں۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً” مضاف (قول) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً” مضاف الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً” مضاف الیہ مرفوع معنی” فاعل ذوالحال (تعالیٰ) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مطلق الفی مرفوع محلاً” فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً” فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتدویر قد منصوب محلاً” حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً” مضاف الیہ ہے (قول) مضاف کا (قول) مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی” فاعل سے مل کر مضاف الیہ (الیسام) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً” فعل (الانسان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے



نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل (من) حرف جار (دعاء) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (الخیر) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ ہے مصدر کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (من) حرف جار (دعاء) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل (الخیر) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے (دعاء) مصدر کا (دعاء) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف متعلق ہے (لایام الانسان) فعل محذوف کے (لایام) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضائر بارزہ مرفوع لفظاً" فعل (الانسان) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ مراد لفظ ہو کر منصوب محلاً" مقولہ مفعول بہ ہے (قول) مضاف کا (قول) مضاف اپنے مضاف الیہ اور مقولہ مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثالہ" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اعلم ان هذه الصور جارية في مصدر الفعل المتعدى"

ترجمہ: جان لو کہ یہ (مذکورہ بالا پانچ) صورتیں صرف فعل متعدی کے مصدر میں جاری ہوں گی۔

ترکیب ○ (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (عند) اسم اشارہ مبنی بر کسر منصوب محلاً" موصوف (الصور) معرف باللام جمع مکسر منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب محلاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (جاریہ) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (نی) حرف جار (مصدر) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (المتعدی) معرف باللام اسم مقوم رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسہ کے مجرور تقدیر" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتلویل مفرد ہو کر منصوب محلاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

”واما فی مصدر الفعل اللازم فصوره واحده“

ترجمہ: اور فعل لازم کے مصدر کے لئے تو ایک صورت متعین ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (اما) حرف شرط و تفصیل (جواب از سوال مقدر) فعل شرط محذوف ہے و جواباً (فی) حرف جار (مصدر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً موصوف (اللازم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً خبر مقدم ہے (مسنم ہے معنی جزاء کو) (ف) حرف جزائیہ (صوره) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً موصوف (واحدہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء مؤخر ہے (مسنم ہے معنی شرط کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا) خبر مقدم کا مبتداء مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف کی۔ شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”وہی ان یضاف الی الفاعل“

ترجمہ: اور وہ اضافت الی الفاعل ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (می) ضمیر مرفوع مسفعل کی مرفوع محلاً مبتداء (ان) حرف مصدریہ نائبہ عاملہ در مضارع (یضاف) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل (مو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل (الی) حرف جار (الفاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”نحو اعجبنی فعود زید“

ترجمہ: جیسے زید کے بیٹھنے نے مجھ کو تعجب میں ڈالا (فعود مصدر لازم ہے اور (زید) فاعل ہے)

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (اعجب) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً فعل (نون) و قلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً

مفعول بہ (تعود) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل" فاعل ہے مصدر کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع معنی فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و فاعل المصدر لا یکون مستترا"

ترجمہ: اور مصدر کا فاعل مستتر نہیں ہو سکتا

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (لا یکون) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (لا یکون) فعل ناقص کا (مستتر)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (لا یکون) فعل ناقص کی (لا یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ولا یتقدم معمولہ علیہ"

ترجمہ: اور معمول مصدر — مصدر پر مقدم نہیں ہوگا۔ (خواہ معمول فاعل ہو یا مفعول (ہاں معمول اگر طرف یا جار و مجرور ہے تو تقدیم جائز ہے)

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (لا یتقدم) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (معمول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل (علی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تم الثانی من العوامل القیاسیۃ المصدر بحمد اللہ تعالیٰ

## الثالث من العوامل القیاسیۃ اسم الفاعل

”والثالث اسم الفاعل“

ترجمہ: اور تیسرا (عال قیاسی) اسم فاعل ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الثالث) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً صفت ہے (العال) موصوف محذوف کی (العال) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً مبتداء (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وہو کل اسم اشتق من فعل لذات من قام بہ الفعل“

ترجمہ: اور اسم فاعل ہر ایسا اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو اور ایسی ذات کے لئے مشتق ہو جس کے ساتھ فعل قائم ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہو) ضمیر مرفوع مسفصل کی مرفوع محلاً مبتداء (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً موصوف (اشتق) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل (من) حرف جار (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (لام) حرف جار (ذات) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً مضاف (من) اسم موصول (قام) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً فعل (ب) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وہو یعمل عمل فعلہ کالمصدر“

ترجمہ: مصدر کی طرح اسم فاعل بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہو) ضمیر مرفوع مسفصل کی مرفوع محلاً مبتداء (یعمل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از

ضماہ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عمل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی "فاعل (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (عمل) مضاف کا (عمل) مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق (کاف) حرف جار (المصدر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فان كان مشتقاً من الفعل الازم فيرفع الفاعل"

ترجمہ: یعنی وہ اسم فاعل اگر فعل لازم سے مشتق ہو تو صرف فاعل کو رفع سے گا۔

ترکیب ○ (ف) حرف فیلیہ (ان) حرف شرط و جازم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مجزوم محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (مشتقاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (من) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (اللازم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضماہ بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

فقط = (ف) حرف جزائیہ (قط) - معنی انتہ اصل تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

"اذا رفعت الفاعل فانتہ عن ان تجعله غیر رافع"

ترجمہ: جب تو رفع دے فاعل کو تو رک جاؤ رفع کے علاوہ اور عمل دینے سے۔

ترکیب ○ (اذا) ظرف زمان مبنی بر سکون منصوب محلاً "مضاف مستغنی ہے معنی شرط کو (رفعت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر مخاطب مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (اذا) مضاف کا (اذا) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب محلاً" مفعول فیہ مقدم قائم مقام ہے شرط کے (ف) حرف جزائیہ (انتہ) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عن) حرف جار (ان) حرف مصدریہ نائبہ عاملہ در مضارع (تجعل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (رافع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ثانی ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق (انتہ) فعل کے (انتہ) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قائم مقام ہے جزاء کے شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل زید قائم ابوہ"

ترجمہ: جیسے زید قائم ہے اس کا باپ۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ابو) اسمائے ستہ کبرہ رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے جر ساتھ یاء ساکن ماقبل مکسور کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وان كان مشتقاً من الفعل المتعدى فيرفع الفاعل وينصب المفعول به"

ترجمہ: اور اگر فعل متعدی سے مشتق ہو تو فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (كان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجرور محلاً" فعل از افعال ناقصہ

طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (مشتقا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظا "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (من) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظا "موصوف (المتعدی) معرف باللام منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیر "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور لفظا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظا "خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظا "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل (ال) . معنی (الذی) کے اسم موصول (مفعول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظا "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" نائب فاعل (ب) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "باعتبار محل قریب کے (مرفوع معنی" نائب فاعل ہے باعتبار محل بعید کے) (مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو اور نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور اور طرف لغو سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر منصوب محلا "مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"ایضا"

ترکیب ○ (ایضا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظا "مفعول مطلق ہے (آض) فعل محذوف کا (آض) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا۔

"مثل زید ضارب غلامہ عمرو"

ترجمہ: جیسے زید مارنے والا ہے غلام اس کا عمرو کو۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظا "مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظا "مبتداء (ضارب) اسم

مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (غلام) اسم مفرد  
منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (د) ضمیر مجرور متصل کی مجرور  
مخلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (عمو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی  
کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل  
کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا  
(مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ  
خبریہ ہوا۔

"و شرط عملہ ان یکون بمعنی الحال او الاستقبال"

ترجمہ: اور اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کا حال یا استقبال کے معنی میں ہونا ہے۔

ترکیب ○ (او) حرف عطفہ (شرط) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے  
مرفوع لفظاً" مضاف (عمل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف  
الیہ مضاف (د) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر اپنے مضاف الیہ مرفوع  
معنی" فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (شرط) مضاف کا (شرط) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (ان)  
حرف مصدریہ نائب عاملہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب  
ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر  
درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح  
کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مجرور تقدیراً" مضاف (الحال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح  
لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (او) حرف عطفہ (الاستقبال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ  
لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر  
مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف  
مستقر منصوب محلاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مفرد ہو کر  
مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و انما اشترط باحدهما لیكمل مشابہتہ بالفعل المضارع لانه لما كان مشابهاً بالفعل المضارع بحسب

اللفظ فی عدد الحروف والحركات والسکنات فکان حینئذ مشابهاً بحسب المعنی"

ترجمہ: حال اور استقبال میں سے کسی ایک کے معنی میں ہونے کی شرط اس وجہ سے لگائی گئی ہے تاکہ اسم فاعل کی مشابہت فعل  
مضارع کے ساتھ مکمل ہو جائے کیونکہ (یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ) اسم فاعل عدد حروف اور حرکات اور سکنت میں لفظی طور پر  
فعل مضارع کے مشابہ ہے تو اب (معنی حال یا استقبال کی بناء پر) معنوی مشابہت بھی پیدا ہو گئی ہے۔



(لما) حرف شرط ہے بعض کے نزدیک اور ظرف زمان مضمّن ہے معنی شرط کو بعض کے نزدیک دیگر اس تقدیر پر جواب کا مفعول فیہ ہوتا ہے یہ (اعجب کلمات) سے ہے جبکہ ماضی پر داخل ہو تو ظرف ہوتا ہے اور جب مضارع پر داخل ہو تو حرف اور جب دونوں پر نہ ہو تو (معنی الا) جیسے اس آیت میں (وان کل نفس لعلیہا حافظ) کذافی کلیات ابی البقاء

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (انما) کلمہ حصر مرکب از (ان) اور (ما) کافہ عن العمل لا محل لہما من الاعداب (اشرط) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ب) حرف جار (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق اول ہے (اشرط) فعل کا (لام) حرف جار (بمعنی کسی) لام (کسی) کہے بعد (ان) مصدر یہ مقرر ہوتا ہے اصل میں تقدیر عبارت (لان یکمل) تھی (ان) حرف مصدر یہ نائبہ مقرر (یکمل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل (مشابہة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل (ب) حرف جار زائدہ (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "منصوب معنی "موصوف (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "منصوب معنی "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب معنی "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب معنی "مفعول بہ ہے (مشابہة) مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل (لام) حرف جار برائے تعلیل (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً "اسم ہے ان شبہ بالفعل کا (لما) ظرفیہ برائے شرط (کلن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (مشابہة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ب) حرف جار زائدہ (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "منصوب معنی "موصوف (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "منصوب معنی "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب معنی "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب معنی "مفعول بہ (مشابہة) اسم فاعل کا (ب) حرف جار (حسب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (اللفظ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر

ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق اول ہے (مشابہاً) اسم فاعل کا (نی) حرف جار (عدو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الحروف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الحركات) معرف باللام جمع مَنوٹ سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (السکنات) معرف باللام جمع مَنوٹ سالم رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ثانی ہے (مشابہاً) اسم فاعل کا (مشابہاً) اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور دونوں مسقطوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کن) فعل ناقص کا (حین) ظرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (از) ظرف مبنی بر سکون مجرور محلاً" مضاف الیہ (از پر جو تین ہے یہ جملہ محذوف (کن کذا) محذوف کے عوض میں ہے) (از) مضاف اپنے عوض مضاف الیہ سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا (حین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (کن) فعل ناقص کا (مشابہاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (با) حرف جار (سب) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (المعنی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسو کے مجرور تقدیراً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مشابہاً) اسم فاعل کے (مشابہاً) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاول مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (یکمل) فعل کے (یکمل) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاول مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ثانی ہے (اشترط) فعل کا (اشترط) فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معللہ ہوا۔

"ایضاً"

ترکیب ○ (ایضاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (آض) فعل محذوف کا (آض) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر ردو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے (آض) فعل کا (آض) فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”و بشرط اعتماده علی المبتدا او علی الموصول او علی الموصوف او علی ذی الحال او علی حرف النفی  
 او الاستفہام بان یکون قبلہ حرف النفی او الاستفہام“

ترجمہ: (مفعول بہ میں عمل کے لئے) یہ شرط بھی ہے کہ (اعتما اسم فاعل کا یا تو مبتداء پر ہوگا یا موصول پر ہوگا یا موصوف پر ہوگا یا  
 ذوالحال پر ہوگا یا حرف نفی یا حرف استفہام پر ہوگا ایسے طریقے پر کہ اس سے پہلے حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (یشترط) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب  
 ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل (اعتما) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے  
 جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل (علی) حرف جار  
 (المبتدا) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور  
 لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (علی) حرف جار (الموصول) معرف باللام اسم مفرد منصرف  
 صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر  
 معطوف اول (او) حرف عاطفہ (علی) حرف جار (الموصوف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح  
 لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی (او) حرف عاطفہ (علی) حرف جار  
 (ذی) اسمائے ستہ کبرہ رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور  
 کے (مجرور بیا) یا مجرور لفظاً“ مضاف (الحال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر  
 ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور  
 سے مل کر معطوف ثالث (او) حرف عاطفہ (علی) حرف جار (حرف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی  
 کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف (النفی) معرف باللام اسم مفرد منصرف جاری مجرئی صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب  
 ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (الاستفہام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع  
 ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ معطوف ہے (السنی) معطوف علیہ (السنی) معطوف  
 علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار  
 اپنے مجرور سے مل کر معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (اعتما)  
 مصدر مضاف کے (اعتما) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی“ فاعل اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً“ ذوالحال (ب) حرف جار  
 (ان) حرف مصدریہ نائبہ عاملہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے  
 نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً“ فعل از افعال تام . معنی (یوجد) (قبل) ظرف زمان منصوب لفظاً“  
 مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول فیہ  
 (حرف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (النفی)  
 معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ معطوف علیہ

(او) حرف عاطفہ (الاستفہام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (حرف) مضاف کا (حرف) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے (کیون) فعل تام کا (کیون) فعل تام اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً حل ہے (اعتماہ) زوالحل کا (اعتماہ) زوالحل اپنے حل سے مل کر مرفوع لفظاً نائب فاعل ہے (بیشتر ط) فعل مجہول کا (بیشتر ط) فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”ایضاً“

ترکیب ○ (ایضاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً مفعول مطلق ہے (آض) فعل محذوف کا (آض) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب بینی رفع مرفوع محلاً فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”فیكون خبراً عنه“

ترجمہ: پس اسم فاعل اس مبتداء کی خبر واقع ہو۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (کیون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے (کیون) فعل ناقص کا (خبراً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً موصوف (من) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً خبر ہے (کیون) فعل ناقص کی (کیون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف اذا اعتماد علی المبتداء کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”مثل المثال المذكور“

ترجمہ: جیسے کہ مثل مذکور (زید ضارب غلامہ عمرو) میں ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (المثال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً موصوف (المذكور) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر

مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فیكون صلة" لہ

ترجمہ: پس یہ اسم فاعل اس کا صلہ ہو جائے۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (صلة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (لام) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف لذا اعتماد علی الموصول" کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"نحو الضارب عمرو" فی الدار ای الذی هو ضارب عمرو" فی الدار

ترجمہ: جیسے الضارب عمرو" فی الدار یعنی وہ شخص جو کہ عمرو کو گھر میں مارنے والا ہے (یہ اعتماد علی الموصول کی مثل ہے جبکہ اسم فاعل صلہ ہو)۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ال) . معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (ضارب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل (عمرو)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مفعول بہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (فی) حرف جار (الدار) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (الذی) اسم موصول (هو) ضمیر مرفوع مفسل کی مرفوع محلاً" مبتداء (ضارب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً" فاعل (عمرو)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مفعول بہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (فی) حرف جار (الدار) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل

کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسراہنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (نحی) مضاف کا (نحی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فیکون صفة" لہ

ترجمہ: پس وہ اسم فاعل اس کی صفت واقع ہوگا۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جنم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (صفة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوة لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (لام) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلا "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف اذا اعتماد علی الموصوف کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل مررت برجل ضارب ابنته جاریہ"

ترجمہ: جیسے میرا گزر ایک مرد پر ہوا جس کا بیٹا باندی کو مار رہا تھا (یہ مثل اعمد علی الموصوف کی ہے جبکہ اسم فاعل صفت ہو) ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوة لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مررت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلا "فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلا "فاعل (ب) حرف جار (رجل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوة لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (ضارب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوة لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل (ابن) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوة لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل (جاریہ)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوة لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے (ضارب) اسم فاعل کا (ضارب) اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مررت) فعل کے (مررت) فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فیکون حالا" عنہ

ترجمہ: پس وہ اسم فاعل اس کا حال واقع ہو۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (حالا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (عن) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف اذا اعتماد علی ذی الحال کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل مررت بزید را کبیا ابوہ"

ترجمہ: جیسے میں گزرا زید پر در آں حالانکہ زید کا باپ اونٹ پر سوار تھا۔ (یہ اعتماد علی ذی الحال کی مثال جبکہ اسم فاعل حال ہو)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مررت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" ذوالحال (را کبیا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (ابو) اسمائے ستہ کبرہ رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے جزم ساتھ یا ساکن ماقبل کسور کے مرفوع لفظاً" مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل ما قائم ابوہ و اقائم ابوہ"

ترجمہ: جیسے (نہیں باپ اس کا قائم۔ یہ مثل حرف نفی کی ہے) اور (کیا کھڑا ہے باپ اس کا یہ مثل حرف استفہام کی ہے) یہ مثال ہے جبکہ اسم فاعل کا اعتماد حرف نفی یا حرف استفہام پر ہو۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ما) حرف نافیہ غیر عاملہ (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع

لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "ابتداء (ابو) اسمائے ستہ کبرہ رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "ابتداء (ابو) اسمائے ستہ کبرہ رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء محذوف "مثلاً" کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وان فقد فی اسم الفاعل احد الشرطین المذكورین فلا یعمل اصلاً" بل یکون حیثئذ مضافاً الی ما یبعده ترجمہ: اور اگر مذکورہ دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اسم فاعل میں نہ پائی جائے تو وہ اسم فاعل مفعول میں عمل نہ کر سکے گا بلکہ اس وقت اسم فاعل اپنے مابعد کی طرف مضاف ہوگا۔ (حسب تصریح "علامہ رضی الدین محمد بن الحسن الاسترآبلی النحوی" شیعہ کتابے مابعد کی طرف اضافت اس صورت میں ہوگی جہاں مابعد معنی "مفعول واقع ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو اضافت نہ ہوگی جیسے ہذا ضارب امس میں "امس" طرف ہے مفعول نہیں ہے۔ لہذا "ضارب" کی اضافت بھی نہیں)

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (انقد) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب جہاں فتح مجزوم محلاً "فعل (فی) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (الشرطین) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً "موصوف (المذکورین) معرف باللام اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے فعل کا فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ف) حرف جزائیہ (لا یعمل) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (اصلاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "صفت (عملاً)" موصوف محذوف کی (عملاً) موصوف محذوف اپنی



صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے یا (اصلاً)" اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" مفعول فیہ (بعد مضارع منفی . معنی (ابداً") آتا ہے جیسے یہاں پر ماضی منفی . معنی (قط) بہر تقدیر طرف ہے) فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق یا مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (مل) حرف عاطفہ برائے اثبات باحد و اعراض ماقبل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (حین) طرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (از) طرف مبنی بر سکون مجرور محلاً" مضاف الیہ (توین) جملہ محذوفہ (کن کذا) کے عوض ہے) (از) مضاف اپنے عوض مضاف الیہ سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا (حین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (یکون) فعل ناقص کا (مضافاً)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (الی) حرف جار (یا) اسم موصول (بعد) طرف زمان منصوب لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ (ثبت) فعل محذوف کا (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل مررت بزید ضارب عمرو امس"

ترجمہ: جیسے گزرا میں زید پر جس نے کل گزشتہ عمرو کو مارا تھا۔ (امس) (معنی دیروز) (ارادہ کردہ شود) اور کبھی . معنی زمانہ ماضی مطلق اس تقدیر پر محرب ہوتا ہے اور اس پر الف لام داخل ہوتا ہے جیسے (کان لم تغن بالامس) ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (مررت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل (ب) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (ضارب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل مضاف (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عمرو) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ (امس) طرف زمان مبنی بر کسر منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل مضاف اپنے فاعل اور مضاف الیہ اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء

محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”وان كان اسم الفاعل معرفاً باللام يعمل في مابعدہ في كل حال“

ترجمہ: اور اگر اسم فاعل معرف باللام ہو تو ہر حال میں اپنے مابعد کے اندر داخل ہوگا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ان) حرف شرط و جازم (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجرور محلاً ”فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ اسم ہے (کن) فعل ناقص کا (معرفاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً“ اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ نائب فاعل (ب) حرف جار (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً“ خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (يعمل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل (نی) حرف جار (ا) اسم موصول (بعد) ظرف زمان منصوب لفظاً“ مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول فیہ ہے (ثبت) فعل محذوف کا (ثبت) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً“ صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (يعمل) فعل کے (نی) حرف جار (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف (حال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (يعمل) فعل کے (يعمل) فعل اپنے فاعل اور دونوں مسطوقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”سواء كان بمعنى الماضي او الحال او الاستقبال“

ترجمہ: برابر ہے کہ ماضی کے معنی میں ہو یا حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو۔

ترکیب ○ (سواء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً“ خبر مقدم (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ اسم ہے (کن) فعل ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ تقدیر فتح

کے ساتھ تقدیر کسروہ کے مجرور تقدیراً" مضاف (الماضی) معرف باللام اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ تقدیر کسروہ کے مجرور تقدیراً" معطوف علیہ (او) حرف عطفہ (الحال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف اول (او) حرف عطفہ (الاستقبال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور تقدیراً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر (ای کونہ بمعنی الماضی) ہو کر مرفوع محلاً" مبتداء مؤخر ہے (سواء) خبر مقدم کا مبتداء مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و سواء كان معتمداً علی احد الامور المذكورة او غیر معتمداً"

ترجمہ: اور برابر ہے کہ مذکورہ امور میں سے کسی ایک پر اعتماد کرتا ہو یا اعتماد نہ کرتا ہو۔

ترکیب ○ (او) حرف عطفہ (سواء) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر مقدم (کن) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کن) فعل ناقص کا (معتمداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الامور) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (المذكورة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" معطوف علیہ (او) حرف عطفہ (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (معتمداً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے ساتھ کسروہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (کن) فعل ناقص کی (کن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ای کونہ معتمداً" ہو کر مرفوع محلاً" مبتداء مؤخر ہے (سواء) خبر مقدم کا (سواء) خبر مقدم اپنے مبتداء مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل الضارب عمروا" الان هو زيد"

ترجمہ: جیسے عمرو کو مارنے والا اب یا گزشتہ کل یا آئندہ کل وہ زید ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ال) . معنی "الذی" کے ہے اسم موصول (ضارب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عمرو)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (الان) ظرف . معنی زمان حاضر جہتی بر فتح منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتداء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہوا۔

"مثل الضارب عمرو" امس هو زید"

ترجمہ: جیسے عمرو کو مارنے والا اب یا گزشتہ کل یا آئندہ کل وہ زید ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ال) . معنی "الذی" کے ہے اسم موصول (ضارب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عمرو)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (امس) ظرف زمان جہتی بر فتح منصوب محلاً" مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتداء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہوا۔

"مثل الضارب عمرو" غداً هو زید"

ترجمہ: جیسے عمرو کو مارنے والا اب یا گزشتہ کل یا آئندہ کل وہ زید ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ال) . معنی "الذی" کے ہے اسم موصول (ضارب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عمرو)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ

نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (عدا) "طرف زبان منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً" مبتداء (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتداء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء مجرور "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اعلم ان اسم الفاعل الموضوع للمبالغة كضرب و ضروب و مضرب بمعنی كثير الضرب و علامة و علمیم بمعنی كثير العلم و حذر بمعنی كثير الحذر مثل اسم الفاعل الذي ليس للمبالغة في العمل" ترجمہ: جانئے کہ اسم فاعل کے وہ صیغے جو مبالغہ کے (معنی ادا کرنے کے) لئے موضوع ہوئے ہیں جیسے ضرب اور ضروب اور مضرب کثیر الضرب کے معنی میں ہیں یعنی بڑا مارنے والا اور علامۃ اور علمیم بمعنی کثیر العلم یعنی بڑا عالم اور حذر بمعنی کثیر الحذر یعنی بڑا محتاط بڑا ہوشیار ایسے تمام صیغے عمل کے لحاظ سے اس اسم فاعل جیسے ہیں جو مبالغہ کے معنی ادا نہیں کرتے۔

ترکیب ○ (اعلم) فعل امر حاضر معلوم واحد مذکر جنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل (انت) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" موصوف (الموضوع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" ذوالحال (لام) حرف جار (المبالغة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو تعلق ہے اسم مفعول کے (کاف) حرف جار (ضرب) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ضروب) مراد لفظ مجرور محلاً" لوف اول (واو) حرف عاطفہ (مضرب) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے لے کر مجرور محلاً" ذوالحال (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے تقدیراً" مضاف (کثیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" الیہ مضاف (الضرب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے و لفظاً" مضاف الیہ ہے (کثیر) مضاف کا (کثیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (معنی) مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیراً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے (ذوالحال) کا (مضرب) ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور محلاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (علامۃ) مراد لفظ مجرور محلاً" لیه (واو) حرف عاطفہ (علمیم) مراد لفظ مجرور محلاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا (علامۃ) معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر

مجروح محلا" ذوالحال (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصور رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسو کے مجروح تقدیر" مضاف (کثیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجروح لفظاً" مضاف الیہ مضاف (العلم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجروح لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجروح لفظاً" مضاف الیہ ہے (معنی) مضاف کا (معنی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجروح تقدیر" مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا" حل ہے (علامہ علیہم) ذوالحال کا (علامہ علیہم) ذوالحال اپنے حل سے مل کر مجروح محلا" معطوف اول (داو) حرف عاطفہ (عذر) مراد لفظ مجروح محلا" ذوالحال (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسو کے مجروح تقدیر" مضاف (کثیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجروح لفظاً" مضاف (العذر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجروح لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجروح لفظاً" مضاف الیہ ہے (معنی) مضاف کا (معنی) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجروح تقدیر" مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا" حل ہے (عذر) ذوالحال کا (عذر) ذوالحال اپنے حل سے مل کر مجروح محلا" معطوف ثانی ہے (علامہ) معطوف علیہ کا (علامہ) معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجروح محلا" مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا" حل ہے (هو) ضمیر ذوالحال کا (هو) ضمیر ذوالحال اپنے حل سے مل کر مرفوع محلا" نائب فاعل ہے (موضوع) اسم مفعول کا (موضوع) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (مثل) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجروح لفظاً" مضاف الیہ مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجروح لفظاً" مضاف الیہ ہے (اسم) مضاف کا (اسم) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجروح لفظاً" موصوف (الذی) اسم موصول (لیس) فعل ماضی مطوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلا" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر رد مستتر مرفوع محلا" اسم ہے (لیس) فعل ناقص کا (لام) حرف جار (المبالغۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجروح لفظاً" مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا" خبر ہے (لیس) فعل ناقص کی (لیس) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجروح محلا" صفت ہے (اسم الفاعل) موصوف کی (اسم الفاعل) موصوف اپنی صفت سے مل کر مجروح لفظاً" مضاف الیہ (نی) حرف جار (العل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسو لفظی کے مجروح لفظاً" مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مثل) مصدر کے (مثل) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تیویل مفرد ہو کر منصوب محلا" مفعول بہ (اعلم) فعل کا (اعلم) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

”وان زالت المشابهة اللفظية بالفعل“

ترجمہ: اگرچہ ان صیغوں کی فعل سے لفظی مشابہت زائل ہو چکی ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ ہے خبری کے نزدیک اور علامہ ز محشری کے نزدیک حالیہ ہے اور رضی شارح کافیہ کے نزدیک اعتراضیہ ہے (ان) وصیلہ لا محل لہامن الاعراب (نزد جمہور نحاۃ حرف شرط ایسے مقام پر و ملیہ کہلاتا ہے اور اس کی جزاء بوجہ دلالت کلام سابق وجوبا“ محذوف ہوتی ہے اور کلام سابق مثل عوض جزاء ہوتا ہے (زالت) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب مبنی بر سکون مرفوع محلا“ فعل کسرہ بسبب السقاء الساکین کے (المشابهة) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ مصدر (ب) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے مصدر کے مصدر اپنے متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً“ موصوف (اللفظیة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے (فہو مثلہ فی العمل) جزاء محذوف کی شرط اپنی جزاء محذوف سے مل کر شرطیہ ہوا۔

”لکنہم جعلوا ما فیہا من زیادة المعنی قائما“ مقام مازال من المشابهة اللفظیة“

ترجمہ: لیکن نحمائے نے صیغائے مبالغہ میں معنی کی زیادتی کو قائم مقام بنادیا لفظی مشابہت کے جو کہ ان صیغوں میں سے جاتی رہی ہے۔

ترکیب (لکن) حرف از حروف مشبہ بالفعل (برائے استدراک) طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہم) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا“ اسم ہے لکن مشبہ بالفعل کا (جعلوا) فعل ماضی معلوم جمع مذکر غائب ساتھ ضمیر بارز (واو) مرفوع متصل کے مرفوع محلا“ فاعل (ما) اسم موصول (نی) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (وقع) فعل مقدر کے (وقع) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا“ فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (من) حرف جار (زیادۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف (المعنی) معرف باللام اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مجرور تقدیر“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (وقع) فعل کے (وقع) فعل اپنے فاعل اور دونوں مطعقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر منصوب محلا“ مفعول بہ اول (قائما“ اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً“ اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (مقام) اسم ظرف منصوب لفظاً“ مضاف (ما) اسم موصول (زال) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا“ فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا“ فاعل (من) حرف جار (المشابهة) معرف

باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (اللفظیۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور عملاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "مفعول بہ ثانی ہے (جعلوا) فعل کا (جعلوا) فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع عملاً "خبر ہے (کنن) شبہ بالفعل کی (کنن) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم الثالث من العوامل القیاسیۃ اسم الفاعل بحمد اللہ تعالیٰ

## الرابع من العوامل القیاسیۃ اسم المفعول

"ورابعها اسم المفعول"

ترجمہ: اور چوتھا (عوامل قیاسی) اسم مفعول ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (والمخ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" صفت ہے (العامل) موصوف مجزوف کی (العامل) موصوف مجزوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "ابتداء (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وہو کل اسم اشتق لذات من وقع علیہ الفعل"

ترجمہ: اور وہ ہر ایسا اسم ہے کہ جس کا اشتقاق کسی ایسی ذات کے لئے ہو جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ھو) ضمیر مرفوع مفعول کی مرفوع عملاً "ابتداء (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (الاشتق) فعل ماضی مجزوف واحد مذکر نائب مبنی برح مرفوع عملاً "فعل (ھو) ضمیر درو مستتر مرفوع عملاً "نائب فاعل (لام) حرف جار (ذات) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (من) اسم موصول (وخرج) فعل ماضی معلوم واحد مذکر نائب مبنی برح مرفوع عملاً "فعل (حل) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور عملاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (الفعل) معرف باللام



اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (ذات) مضاف کا (ذات) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" صفت ہے (اسم) موصوف کی (اسم) موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وہو یعمل عمل فعلہ"

ترجمہ: اور وہ اپنے فعل مجہول کے انداز پر عمل کرتا ہے (یعنی) اسم مفعول۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً" مبتداء (یعمل) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عمل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مرفوع معنی "فاعل (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ (عمل) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فیرفع اسما و احدا بانہ قائم مقام فاعلہ"

ترجمہ: پس ایک اسم کو رفع ہو گا دے گا کیونکہ وہ اپنے فاعل کے قائم مقام ہے۔

ترکیب ○ (ف) نصیوہ (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (اسا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (واحد)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مفعول بہ (ب) حرف جار (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ہ) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (قائم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (مقام) اسم ظرف منصوب لفظاً" مضاف (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (مقام) مضاف کا (مقام) مضاف اپنے مضاف الیہ

سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف" اذا عمل عمل فعلہ" (اذا) شرطیہ (عمل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر عاتب جہتی ینفتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عمل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً" مضاف (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی" فاعل (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (عمل) مضاف کا (عمل) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مفعول مطلق ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی جزاء مقدم کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"و شرط عملہ کونہ بمعنی الحال لو الاستقبال و اعتماده علی المبتداء او الموصول او الموصوف او ذی الحال او حرف النفی او الاستفہام"

ترجمہ: اسم مفعول کے عامل ہونے کی شرط اس کا معنی حال یا استقبال ہونا ہے اس کا اعتکاد کرنا ہے یا تو مبتداء پر اعتکاد ہو گا یا موصول پر اعتکاد ہو گا یا موصوف پر اعتکاد ہو گا یا ذوالحال پر اعتکاد ہو گا یا اسم مفعول کا یا حرف نفی یا حرف استفہام پر اعتکاد ہو گا اسم مفعول کا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (شرط) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (عمل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے شرط مضاف کا شرط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (کون) مصدر ناقص رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی" اسم ہے (کون) مصدر ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مجرور تقدیر" مضاف (الجل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (الاستقبال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" خبر ہے (کون) مصدر ناقص کی (کون) مصدر ناقص اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی" اسم اور خبر سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اعتکاد) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا

لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل (علی) حرف جار (المبتدا) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" (منصوب محلاً" کہ بواسطہ حرف جر مفعول بہ غیر صریح اعتماد) معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (الموصول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف اول (او) حرف عاطفہ (الموصوف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ثانی (او) حرف عاطفہ (ذی) اسمائے ستہ کبرہ رفع ساتھ واو ساکن ما قبل مضموم کے نصب ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے جر ساتھ یا ساکن ما قبل مکسور کے مجرور لفظاً" مضاف (الحال) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف ثالث (او) حرف عاطفہ (حرف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (النفی) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (الاستفہام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" معطوف رابع ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (اعتماد) مصدر کے (اعتماد) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور (مفعول بہ غیر صریح) اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" معطوف ہے (کونہ) معطوف علیہ کا (کونہ) معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

کما فی اسم الفاعل

ترجمہ جیسا کہ اسم فاعل میں ہے

ترکیب ○ (کاف) حرف جار (ما) اسم موصول (نی) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" مجرور ہے کاف جار کلا (کاف) جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے (عنا) مبتدا محذوف کی (عنا) مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل زید مضروب غلامہ الان"

ترجمہ: ز، کا غلام مضروب ہے اس وقت یا آئندہ کل مضروب ہوگا۔ (یہ مبتدا کی مثل ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف

(زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "ابتداء (منصوب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل (الان) اسم ظرف زمان حاضر مبنی بر فتح منصوب محلاً "مفعول فیہ ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء محذوف "مثلاً" کی ابتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل زید مضروب غلامہ غذا"

ترجمہ: زید کا غلام مضروب ہے اس وقت یا آئندہ کل مضروب ہوگا۔ (یہ ابتداء کی مثل ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" ابتداء (منصوب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل (غدا) اسم ظرف زمان حاضر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء محذوف "مثلاً" کی ابتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو المضروب غلامہ زید"

ترجمہ: جیسے وہ شخص کہ جس کا غلام مضروب ہے وہ زید ہے یہ۔ صول کی مثل ہے۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ال) معنی (الذی) اسم موصول (منصوب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً "ابتداء (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف

الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل جاء سی رجل مضروب غلامه"

ترجمہ: جیسے میرے پاس ایسا شخص آیا ہے جس کا غلام مضروب ہے۔ (یہ موصوف کی مثال ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (جاء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً" فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" مفعول بہ (رجل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (مضروب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل جاءنی زید مضروباً غلامه"

ترجمہ: جیسے آیا میرے پاس زید اوراں حلالاً مکہ مضروب ہے اس کا غلام (یہ ذوالحال کی مثال ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (جاء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مرفوع محلاً" فعل (نون) وقلیہ (ی) ضمیر منصوب متصل منصوب محلاً" مفعول بہ (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" ذوالحال (مضروباً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل ما مضروب غلامه و امضروب غلامه"

ترجمہ: جیسے اس کا غلام مضروب نہیں (یہ حرف نفی کی مثال ہے) اور کیا مضروب ہے اس کا غلام (یہ ہمزہ استفہام کی مثال ہے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (با) حرف تاغیہ غیر عاملہ (مضروب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول مبتداء کی قسم ثانی ہے (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا قائم مقام خبر ہے مبتداء قسم ثانی کی مبتداء قسم ثانی اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (داو) حرف عاطفہ (ع) ہمزه حرف استفہام (مضروب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول مبتداء کی قسم ثانی ہے (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" نائب فاعل ہے اسم مفعول کا قائم مقام خبر ہے مبتداء قسم ثانی کی مبتداء قسم ثانی اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وإذا انتفضی فیہ احد الشرطین المذكورین ینتفضی عملہ"

ترجمہ: اور جب دونوں مذکورہ شرطوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے گی تو اس کا عمل ختم ہو جائے گا۔

ترکیب ○ (داو) حرف عاطفہ (اذا) شرطیہ (انتفضی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الفی مرفوع محلاً" فعل (نی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الشرطین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً" موصوف (المذکورین) معرف باللام اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (ینتفضی) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب معتل یائی مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف کلمہ کے مرفوع تقدیر" فعل (عمل) مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"و حیث یدلزم اضافة الی مابعدہ"

ترجمہ: اور ایسے وقت میں اسم مفعول کی اضافت اپنے مابعد کی طرف لازمی ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (حین) طرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (از) طرف جہن بر سکون مجرور محلاً" مضاف الیہ مضاف (توین) جملہ (کن الامر کذا لک) محذوف کے عوض آئی ہے (از) مضاف اپنے عوض جملہ مضاف الیہ محذوف سے مل کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (حین) مضاف کا (حین) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ مقدم (یلزم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (اضافہ) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ (الی) حرف جار (با) اسم موصول (بعد) طرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے (هو) مبتدا محذوف کی (هو) مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (اضافہ) مصدر کے (اضافہ) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

"و اذا دخل عليه الالف واللام يكون مستغنياً عن الشروط في العمل"

ترجمہ: اور جب اسم مفعول پر الف اور لام داخل ہو تو عمل کرنے میں مذکورہ شرطوں سے مستغنی ہو جائے گا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ازا) طرف زمان جہن بر سکون (منغمن ہے معنی شرط کو) منصوب محلاً "مفعول فیہ مقدم (دخل) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب جہن بر فتح مرفوع محلاً "فعل (علی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (الالف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از شمار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (مستغنیاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (عن) حرف جار (الشروط) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے (نی) حرف جار (العل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ ہو کر منصوب لفظاً "خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے

شرط کی شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”مثل جاءني المضروب غلامه“

ترجمہ: جیسے میرے پاس وہ شخص آیا ہے جس کا غلام مضروب ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (جاء) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً“ فعل (نون) و قالیہ (ی) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً ”مفعول بہ (ال) معنی (الذی) کے ہے اسم موصول (مضروب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ اسم مفعول (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً“ فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً ”مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء محذوف ”مثلاً“ کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم

الرابع من العوامل القياسية اسم المفعول بحمد الله تعالى

## الخامس من العوامل القياسية الصفة المشبهة

”و خامسها الصفة المشبهة“

ترجمہ: اور پانچواں (عال قیاسی) صفتہ مشبہ ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (خامس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً ”مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً“ صفت ہے (العالم) موصوف محذوف کی (العالم) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً ”مبتداء (الصفة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ موصوف (المشبهة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً“ صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

”و هي مشابهة باسم الفاعل في التصريف وفي كون كل منهما صفة“

ترجمہ: اور یہ (صفت مشبہ) اسم فاعل سے مشابہ ہے گردان میں اور دونوں میں سے ہر ایک صفت ہونے میں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ھی) ضمیر مرفوع متصل کی مرفوع محلاً ”مبتداء (مشابهة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے



کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (حی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (ب) حرف جار زائدہ (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" منصوب معنی "مضاف (الفاعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب معنی "مفعول بہ (مشابہت) اسم فاعل کے (نی) حرف جار (التصریف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (نی) حرف جار (کون) مصدر ناقص رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف ("کل" پر جو تین ہے یہ "واحد" مضاف الیہ محذوف کے عوض ہے (واحد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (من) حرف جار (ما) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مجرور محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (کل) مضاف کا (کل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "اسم ہے (کون) مصدر ناقص کا (صفة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (کون) مصدر ناقص کی (کون) مصدر ناقص مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "اسم اور خبر سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے (نی) (التصریف) معطوف علیہ کا (نی) (التصریف) معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مشابہت) اسم فاعل کے (مشابہت) اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ امیہ خبریہ ہوا۔

"مثل حسن حسنان حسنون حسنة حسنتان حسنات علی قیاس ضارب ضاربان ضاریون ضاربة ضاریتان ضاریات"

ترجمہ: جیسے حسن - حسنان - حسنون - حسنة - حسنتان - حسنات بمطابق ضارب - ضاربان - ضاریون - ضاربة - ضاریتان - ضاریات

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (حسن حسنان حسنون حسنة حسنتان حسنات) باعراب حکائی مرفوع لفظاً" مجرور معنی "ذوالحال (علی) حرف جار (قیاس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ضارب - ضاربان - ضاریون - ضاربة - ضاریتان - ضاریات) باعراب حکائی مرفوع لفظاً" مجرور معنی مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور معنی "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر

مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء معطوف "مشتق" کہ مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"وہی مشتقہ من الفعل اللازم دالة علی ثبوت مصدرها لفاعلها علی سبیل الاستمرار والادوام بحسب الوضع" ترجمہ: اور وہ (صفت مشبہ) مثل لازمی فعل سے ہی مشتق ہوگی درآں حالانکہ وہ صفت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ صفت کا مصدر اس کے فاعل کے لئے بجاظ وضع بطور استمرار اور دوام ثابت ہے۔

تشریح = (دالة) "مرفوعاً" اور "منصوباً" ہر طرح صحیح ہے۔۔۔ بصورت نصب مشتقہ کی ضمیر سے حل ہوگا یعنی مشتق ہوتی ہے وہ صفت فعل لازمی سے درآں حالانکہ وہ صفت دلالت کرتی ہے۔ اس بات پر کہ صفت کا مصدر اس کے فاعل کے لئے بجاظ وضع بطور استمرار اور دوام ثابت ہے۔۔۔ اور بصورت رفع یہ مبتداء سابق کی دوسری خبر ہو جائے گی۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (می) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً "مبتداء (مشتقہ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "ذوالحال (من) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (اللازم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے (دالة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (ثبوت) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (مصدر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی "فاعل (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ (لام) حرف جار (فاعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (ثبوت) مصدر کے (علی) حرف جار (سبیل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الاستمرار) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (الادوام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (ثبوت) مصدر کے (ثبوت) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (دالة) اسم فاعل کے (ب) حرف جار (سب) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الوضع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ

فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (دالۃ) اسم فاعل کے (دالۃ) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مسقطوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً "حل ہے ذوالحل کا ذوالحل اپنے حل سے مل کر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے (مشتقۃ) اسم مفعول کا (مشتقۃ) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔"

"و تعمل عمل فعلها من غیر اشتراط زمان لکونها بمعنی الثبوت"

ترجمہ: اور صفت شبہ اپنے (مشتق منہ) فعل کا سا عمل کرتی ہے کسی خاص زمانہ کی شرط کے بغیر۔

ترکیب ○ (وار) حرف عطفہ (تعمل) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (حی) ضمیر رو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عمل) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "مضاف (فعل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی "فاعل (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (عمل) مصدر مضاف کا (عمل) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق (من) حرف جار (غیر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (اشتراط) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف (زمان) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (غیر) مضاف کا (غیر) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے (لام) حرف جار (کون) مصدر ناقص رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مرفوع معنی "اسم ہے (کون) مصدر ناقص کا (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسوا کے مجرور تقدیر مضاف (الثبوت) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً "خبر ہے (کون) مصدر ناقص کی (کون) مصدر ناقص مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی اسم اور خبر سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور دونوں مسقطوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔"

"و اما اشتراط الاعتماد فمعتبر فیہا الان الاعتماد علی الموصول لایتائی فیہا لان اللام الداخلة علیہا لیست بموصول بالاتفاق"

ترجمہ: اور البتہ اکتھو کی شرط تو اس میں معتبر ہے لیکن اسم موصول پر اکتھو اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ لام جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ بالاتفاق موصول نہیں ہوتا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (لا) حرف شرط فعل شرط محذوف ہے وجوبا" (اشترط) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الاعتقاد) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً" بتداء (مضمون ہے معنی شرط کو) (ف) حرف جزائیہ (معتبر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "مشتقی منہ (نی) حرف جار (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے (الا) حرف استثناء (ان) حرف از حرف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الاعتقاد) معرف باللام مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے مرفوع لفظاً" مصدر (علی) حرف جار (الموصول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسوف لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق (الاعتقاد) مصدر کے (الاعتقاد) مصدر اپنے متعلق سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (لائیاتی) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب متعل الفی مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (نی) حرف جار (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق اول ہے (لائیاتی) فعل کے (لام) حرف جار برائے تلیل (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے منصوب لفظاً" موصوف (الداخلہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (علی) حرف جار (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (الداخلہ) اسم فاعل کے (الداخلہ) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنے صفت سے مل کر منصوب لفظاً" اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (لیست) فعل ماضی معلوم واحد مونث غائب مینی فتح مرفوع محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (لیست) فعل ناقص کا (ب) حرف جار زائدہ (موصول) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" منصوب معنی "خبر ہے (لیست) فعل ناقص کی (ب) حرف جار (الاتفاق) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوف لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (لیست) فعل ناقص کے (لیست) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر متاول مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق مانی ہے (لائیاتی) فعل کا (لائیاتی) فعل اپنے فاعل اور دونوں مقطوعوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر

ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مستثنیٰ ہے مستثنیٰ منہ کا مستثنیٰ منہ اپنے مستثنیٰ سے مل کر مرفوع محلا "نائب فاعل ہے (معتبر) اسم مفعول کا (معتبر) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مضمون ہے معنی جزاء کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"واما اشتراط الاعتماد فمعتبر فیہا"

ترجمہ: اور البتہ اعتداد کی شرط تو اس میں معتبر ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (اے) حرف شرط فعل شرط محذوف ہے وجوباً (اشتراط) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (الاعتماد) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے مصدر مضاف کا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء (ف) حرف جزائیہ (معتبر) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (نی) ظرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"الان الاعتماد علی الموصول لایتنائی فیہا لان اللام الداخلة علیہا لیست بموصول بالانفاق"

ترجمہ: لیکن اسم موصول پر اعتماد اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ لام جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ بلا تعلق موصول نہیں ہوتا۔  
ترکیب ○ (الا) (معنی) (لکن) حرف استدائیہ (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (الاعتماد) معرف باللام مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مصدر (علی) حرف جار (الموصول) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق (الاعتماد) مصدر کے (الاعتماد) مصدر اپنے متعلق سے مل کر منصوب لفظاً "اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (لا یتنائی) فعل مضارع منفی معلوم واحد مذکر غائب معتدل الفی مجرد از نماز بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیر "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (نی) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق اول ہے (لا یتنائی) فعل کا (لام) حرف جار برائے تعلیل (ان) حرف از حروف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "موصوف (الداخلة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "اسم فاعل (می) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (علی) حرف جار (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (الداخلة) اسم

فاعل کے (الداخلۃ) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنے صفت سے مل کر منصوب لفظاً اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (لیست) فعل ماضی معلوم واحد مؤنث غائب جہی برقع مرفوع محلاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ہی) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً اسم ہے (لیست) فعل ناقص کا (ب) حرف جار زائدہ (موصول) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً منصوب معنی "خبر ہے (لیست) فعل ناقص کی (ب) حرف جار (الاتفاق) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (لیست) فعل ناقص کے (لیست) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر طرف لغو متعلق ثانی ہے (لا یتاتی) فعل کا (لا یتاتی) فعل اپنے فاعل اور دونوں مسطوقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"وقد یکون معمولها منصوباً علی التشبیه بالمفعول فی المعرفة و علی التمییز فی النکره و مجروراً علی الاضافه"

ترجمہ اور کبھی کبھی اس کا معمول معرفہ ہونے میں مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے اور تمیز ہونے کی بناء پر نکرہ میں اور مجرور ہوتا ہے اضافت کی وجہ سے۔

ترکیب ○ (واو) حرف استیفاء (قد) حرف برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (معمول) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (حا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (منصوباً) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے منصوب لفظاً اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل (علی) حرف جار (التشبیہ) معرف باللام مصدر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً مصدر (ب) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے مصدر (التشبیہ) کے مصدر (التشبیہ) اپنے متعلق سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے (کانتا) اسم فاعل مقدر کے (کانتا) اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے منصوب لفظاً اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً فاعل (نی) حرف جار (المعرفة) معرف باللام اسم مفرد منصوب صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسہ لفظی کے مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (کانتا) اسم فاعل کے (کانتا) اسم فاعل اپنے فاعل اور دونوں مسطوقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً

معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (علیٰ) حرف جار (التمییز) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے ("کاتا") اسم فاعل مقدر کے ("کاتا") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے (نی) حرف جار (النکرۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم فاعل کے اسم فاعل اپنے اور دونوں مقطوعوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً" صفت ہے (نصباً) موصوف محذوف کی (نصباً) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (منصوباً) اسم مفعول کا (منصوباً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (مجوراً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (علیٰ) حرف جار (الاضافۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہے ("کاتا") اسم فاعل مقدر کے ("کاتا") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے (جراً) موصوف محذوف کی (جراً) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (مجوراً) اسم مفعول کا (مجوراً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً" خبر ہے (یکون) فعل ناقص کی (یکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال "و قد یکون معمولها منصوباً" علی التشبیه بالمفعول فی المعرفة و علی التمییز فی النکرۃ و مجروراً" علی الاضافۃ"

ترکیب ○ (واو) حرف متانہ (قد) برائے تقلیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ مرفوع لفظاً" فعل ناقص (معمول) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" مضاف (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے (یکون) فعل ناقص کا (منصوباً) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (علیٰ) حرف جار (التشبیہ) معرف باللام مجرور لفظاً" مصدر (ب) حرف جار (المفعول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (التشبیہ) مصدر کے (نی) حرف جار (المعرفة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (التشبیہ) مصدر کے (التشبیہ) مصدر اپنے دونوں مقطوعوں سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عطفہ (علیٰ) حرف جار (التمییز) معرف باللام مجرور لفظاً" مصدر (نی) حرف جار (النکرۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (التمییز) مصدر کے

(التعمییز) مصدر اپنے متعلق سے مل کر مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (منصوباً) اسم مفعول کے (منصوباً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطف (مجروراً) اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً نائب فاعل (علی) حرف جار (الاضافۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح مجرور لفظاً مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مجروراً) اسم مفعول کے (مجروراً) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً خبر ہے (لیکن) فعل ناقص کی (لیکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

”ونكون صيغة اسم الفاعل قياسية“ وصيغها سماعية“

ترجمہ: اور اسم فاعل کا صیغہ قیاسی ہوتا ہے اور صفت شبہ کے صیغے محض سماعی ہوتے ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (نکون) فعل مضارع معلوم واحد مؤنث غائب صحیح مجرور از ضار بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور منصوب کو (صیغۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف (الموصول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (صیغۃ) مضاف کا (صیغۃ) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطف (صیغۃ) جمع مکسر صرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (ها) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً اسم ہے (نکون) فعل ناقص کا (قیاسیۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطف (سماعیۃ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر منصوب لفظاً خبر ہے (نکون) فعل ناقص کی (نکون) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

”مثل حسن و صعب و شدید“

ترجمہ: جیسے حسن (خوبصورت) صعب (دشواری) شدید (تخت)۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً مضاف (حسن) مراد لفظ مجرور محلاً معطوف علیہ (واو) حرف عطف (صعب) مراد لفظ مجرور محلاً معطوف اول (واو) حرف عطف (شدید) مراد لفظ



مجروح محلاً "معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجروح محلاً "مضاف الیہ ہے مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  
تم الخامس من العوامل القیاسیة الصفة المشبهة بحمد الله تعالى

## السادس من العوامل القیاسیة المضاف

"وسادسها المضاف"

ترجمہ: اور چھتا عامل قیاسی مضاف ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (ملاس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ذا) ضمیر مجروح متصل کی مجروح محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" صفت ہے (العامل) موصوف محذوف کی (العامل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء (المضاف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل ہے اسم مفعول کا اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"کل اسم اضعیف الی اسم اخر فیجر الاول الثانی مجرداً" عن اللام والتنوین و ما یقوم مقامه من نون التثنیة و الجمع لاجل الاضافة"

ترجمہ: (مضاف) ہر وہ اسم ہے جس کو دوسرے اسم کی طرف جھکا دیا گیا ہو۔ پس اسم اول اسم ثانی کو جر دے گا در آں حالانکہ اسم اول محض اضافت کی بنا پر لام اور تونین اور تونین کے قائم مقام یعنی نون سیہ اور نون جمع سے خالی ہو۔

ترکیب ○ (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجروح لفظاً "موصوف (اضعیف) فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (الی) حرف جار (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجروح لفظاً "موصوف (اخر) اسم مفرد غیر منصرف بسبب و صیغیت اور وزن فعل کے رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب اور جر ساتھ فتح لفظی کے مجروح حکماً صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجروح لفظاً" مجروح ہے جار کا جار اپنے مجروح سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجروح محلاً "صفت ہے (اسم) موصوف کی (اسم) موصوف اپنی صفت سے مل کر مجروح لفظاً "مضاف الیہ ہے (کل) مضاف کا (کل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء مضمین ہے معنی شرط کو (ف) حرف جزائیہ (یجر) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجروح از ضائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون

لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (الاول) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" صفت ہے (الاسم) موصوف محذوف کی (الاسم) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" ذوالحال (الثانی) معرف باللام اسم مقنوس رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرو کے منصوب لفظاً" صفت ہے (الاسم) موصوف محذوف کی (الاسم) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ (مجروا") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (عن) حرف جار (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (التنوين) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (با) اسم موصول (يقوم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر نائب صحیح مجرور ہماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" ذوالحال (مقام) اسم ظرف منصوب لفظاً" مضاف (و) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ (من) حرف جار برائے بیان (نونی) اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مجرور لفظاً" مضاف (نونی) اصل میں "نونین" تھا "ن" اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے) (التشبیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الجمع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً" فاعل ہے (يقوم) فعل کا (يقوم) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور محلاً" معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مجروا") اسم مفعول کے (لام) حرف جار (اجل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (الاضافۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (مجروا") اسم مفعول کے (مجروا") اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور دونوں معطوفوں شہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع لفظاً" فاعل ہے (یجر) فعل کا (یجر) فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مسنن ہے معنی جزاء کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"والاضافۃ اما بمعنی اللام المقدرۃ واما بمعنی من واما بمعنی فی"

ترجمہ اور اضافت کبھی لام مقدرہ کے معنی میں ہوتی ہے یا اضافت من کے معنی میں ہوتی ہے یا اضافت فی کے معنی میں ہوتی ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (الاضافۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے مرفوع لفظاً "بتداء (ا) حرف تردید زائدہ (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیر" مضاف (اللام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (المقدرة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (ا) حرف تردید زائدہ (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیر" مضاف (من) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (ا) حرف تردید زائدہ (ب) حرف جار (معنی) اسم مقصورہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جر ساتھ تقدیر کسره کے مجرور تقدیر" مضاف (نی) مراد لفظ مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور تقدیر" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے بتداء کی بتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ان لم یکن المضاف الیہ من جنس المضاف ولم یکن ظرفاً" لہ

ترجمہ: اگر مضاف الیہ مضاف کی جنس سے نہ ہو اور نہ اس کے لئے ظرف ہو۔

ترکیب ○ (ان) حرف شرط و جازم (لم یکن) فعل مضارع نفی محذ معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مجرور لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (ال) موصول (مضاف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "نائب فاعل (الی) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول ہے موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً "اسم ہے (لم یکن) فعل ناقص کا (من) حرف جار (جنس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (المضاف) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً "خبر ہے (لم یکن) فعل ناقص کی (لم یکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لم یکن) فعل مضارع نفی محذ معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (لم یکن) فعل ناقص کا (ظرفاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع

ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (لم یکن) فعل ناقص کی (لام) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (لم یکن) فعل ناقص کے (لم یکن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر شرط ہے (فکان الاضافة بمعنی اللام) جزاء محذوف کی شرط اپنی جزاء محذوف سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل غلام زید ای غلام لزید"

ترجمہ: جیسے غلام زید یعنی زید کا غلام

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" باعراب حکائی مجرور معنی "مضاف الیہ مضاف بوجہ اضافت (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور معنی "مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (لام) حرف جار (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہوئی مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مجرور معنی "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل غلام زید"

ترجمہ: جیسے زید کا غلام

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (غلام) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" باعراب حکائی مجرور معنی "مضاف الیہ مضاف بوجہ اضافت (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور معنی "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ان کان من جنسہ"

ترجمہ: اگر (مضاف) مضاف الیہ کی جنس سے ہو۔

ترکیب ○ (ان) حرف شرط و جازم (کان) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بفتح مجرور محلاً" فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر ردد مستتر مرفوع محلاً" اسم ہے (کان) فعل ناقص کا (من) حرف جار (جنس) اسم مفرد منصرف صحیح رفع

ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ" ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً "خبر ہے (کلن) فعل ناقص کی (کلن) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے (فکان الاضافة بمعنی من) جزاء محذوف کی شرط اپنی جزاء محذوف سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل خاتم فضة ای خاتم من فضة"

ترجمہ: جیسے خاتم فنتہ یعنی انگوٹھی چاندی کی ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (خاتم) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" باعراب حکائی مجرور معنی "مضاف الیہ مضاف (بوجہ اضافت کے) (فضة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور معنی "مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (خاتم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (من) حرف جار (فضة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مجرور معنی "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل خاتم فضة"

ترجمہ: جیسے انگوٹھی چاندی کی ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (خاتم) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" باعراب حکائی مجرور معنی "مضاف الیہ مضاف (بوجہ اضافت کے) (فضة) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور معنی "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"ان کان ظرفاً له"

ترجمہ: اگر مضاف الیہ مضاف کے لئے ظرف ہو۔

ترکیب ○ (ان) حرف شرط و جازم (کلن) فعل باضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مجرور محلاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (هو) ضمیر رو مستتر مرفوع محلاً "اسم ہے (کلن) فعل ناقص کا (ظرفاً) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی

کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" خبر ہے (کان) فعل ناقص کی (لام) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق (کان) فعل ناقص کے (کان) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ خلیہ خبریہ ہو کر شرط ہوئی فکان الاضافة ای فی الیوم جزاء محذوف کی شرط اپنی جزاء محذوف سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"نحو ضرب الیوم ای فی الیوم"

ترجمہ: جیسے ضرب الیوم یعنی وہ دن جس میں مار پڑی۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ضرب) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" با عراب حکائی مجرور معنی" مضاف الیہ مضاف (بوجہ اضافت کے) (الیوم) معرف باللام طرف زمان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مفسر ہوا (ای) حرف تفسیر (فی) حرف جار (الیوم) معرف باللام طرف زمان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مجرور محلاً" تفسیر ہے مفسر کی مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (ضرب) مضاف کا (ضرب) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور معنی" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"نحو ضرب الیوم"

ترجمہ: جیسے وہ دن جس میں مار پڑی۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ضرب) مصدر مرفوع لفظاً" با عراب حکائی مجرور معنی" مضاف الیہ مضاف (بوجہ اضافت کے) (الیوم) معرف باللام طرف زمان رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (ضرب) مضاف کا (ضرب) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور معنی" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم السادس من العوامل القیاسیة المضاف بحمد اللہ تعالیٰ

## السابع من العوامل القیاسیة الاسم التام

"وسابعها الاسم التام"

ترجمہ: اور ساتواں (عال قیاسی) اسم تام ہے۔

ترکیب ○ (اد) حرف عاطفہ (سایح) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف سے مل کر مرفوع لفظاً "صفت ہے (العامل) موصوف محذوف کی (العامل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "موصوف (التام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"کل اسم تم فاستغنی عن الاضافة بان یکون فی اخره تنوین لو ما یقوم مقامه من نونى التثنية والجمع لو یکون فی اخره مضاف الیه"

ترجمہ: (اسم تام) ہر وہ اسم ہے جو (اپنی موجودہ شکل میں) پورا ہو۔ اور اس بناء پر اضافت سے بے نیاز ہو گیا ہو یا تو اس طرح کہ اس کے آخر میں تنوین ہو یا تنوین کے قائم مقام نون سیہ اور نون جمع میں سے کوئی ایک ہو یا اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو۔

ترکیب ○ (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (تم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء مضمّن ہے معنی شرط کو (ف) حرف جزائیہ (استغنی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الثنی مبنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (عن) حرف جار (الاضافۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (استغنی) فعل کے (ب) حرف جار (ان) حرف مصدریہ نائبہ عالمہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (نی) حرف جار (آخر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور محلاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" خبر مقدم ہے (یکون) فعل ناقص کی (توین) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (یا) اسم موصول (یقوم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماہر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" ذوالحال (مقام) اسم ظرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ

(من) حرف جار (نونی) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً“ مضاف (“نونی” اصل میں “نونین” تھا اضافت کی وجہ سے “نن” گر گیا ہے) (التشبیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الجمع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً“ حال ہے ذوالحال کا ذالحال اپنے حال سے مل کر مرفوع محلاً“ فاعل ہے (یتقوم) فعل کا (یتقوم) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً“ معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً“ اسم مؤخر ہے (یکون) فعل ناقص کا (یکون) فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ برائے تفصیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ماضی بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً“ بواسطہ عطف فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (نی) حرف جار (آخر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً“ مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً“ خبر مقدم ہے (یکون) فعل ناقص کی (مضاف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً“ اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ نائب فاعل (الی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہے (لفظ) موصوف محذوف کی (لفظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً“ اسم ہے مؤخر ہے (یکون) فعل ناقص کا (یکون) فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر بتلویل مفرد ہو کر مجرور محلاً“ مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (متلبسا“) اسم فاعل مقدر کے (متلبسا“) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً“ اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً“ فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً“ صفت ہے (استغناء“) موصوف محذوف کی (استغناء“) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً“ مفعول مطلق ہے (استغنی) فعل کا (استغنی) فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً“ خبر ہے مبتداء کی مضمین ہے معنی جزاء کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

”کل اسم تم فاستغنی عن الاضافة بان یکون فی اخره نونین لو ما یقوم مقامه من نونی التشبیة والجمع لو یکون فی اخره مضاف الیہ“

ترجمہ (اسم تام) ہر وہ اسم ہے جو (اپنی موجودہ شکل میں) پورا ہو۔ اور اس بناء پر اضافت سے بے نیاز ہو گیا ہو یا تو اس طرف سے



کے آخر میں تونین ہو یا تونین کے قائم مقام نون سیہ اور نون جمع میں سے کوئی ایک ہو یا اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو۔

ترکیب ○ (کل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (اسم) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (نہم) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء مضمّن ہے معنی شرط کو (ف) حرف جزائیہ (استغنی) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب معتل الفی مبنی بر فتح تقدیراً "مرفوع محلاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (عن) حرف جار (الاضافه) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (استغنی) فعل کے (ب) حرف جار (ان) حرف مصدریہ نامہ علامہ در مضارع (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (نی) حرف جار (آخر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" خبر مقدم ہے (یکون) فعل ناقص کی (تونین) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً "معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ (ما) اسم موصول (يقوم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (مقام) اسم ظرف زمان منصوب لفظاً "مضاف (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے (يقوم) فعل کا (يقوم) فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً" ذوالجمل (من) حرف جار (نونین) اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مجرور لفظاً "مضاف (نونین) اصل میں "نونین" تھا اضافت کی وجہ سے "نن" گر گیا ہے (التشبیہ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الجمع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلاً" حال ہے ذوالجمل کا ذوالجمل اپنے حال سے مل کر اسم مؤخر ہے (یکون) فعل ناقص کا (یکون) فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (او) حرف عاطفہ برائے تفصیل (یکون) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" بواسطہ عطف فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (نی) حرف جار (آخر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف (ه) ضمیر مجرور

متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا "خبر مقدم ہے (یکون) فعل ناقص کی (مضاف) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (الی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہے (لفظ) موصوف محذوف کی (لفظ) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" اسم ہے مؤخر ہے (یکون) فعل ناقص کا (یکون) فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (متلبسا") اسم فاعل مقدر کے (متلبسا") اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" صفت ہے (استغناء") موصوف محذوف کی (استغناء") موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (استغنی) فعل کا (استغنی) فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے مبتداء کی مسنن ہے معنی جزاء کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"و هو ينصب النكرة على انها تمیيز له"

ترجمہ: اور وہ اسم تام نکرہ کو (جو اس کے بعد ہوگا) اپنی تیز کے طور پر نصب دے گا۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (هو) ضمیر مرفوع متصل کی مرفوع محلا "مبتداء (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (النكرة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ (علی) حرف جار (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ها) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلا "اسم ہے (ان) شبہ بالفعل کا (تمییز) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" موصوف (لام) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل کی (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلا "خبر ہے (هو) مبتداء کی (هو) مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

دوسرا احتمال

"و هو ينصب النكرة على انها تمیيز له"

ترکیب ○ (واو) حرف عطف (هو) ضمیر مرفوع متصل کی مرفوع محلا "مبتداء (ینصب) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد

از ضماز باز رہ مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (النكرة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح منصوب لفظاً" ذوالحال (علی) حرف جار (ان) حرف از حرف مشبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (ها) ضمیر منصوب متصل کی منصوب محلاً" اسم ہے (ان) مشبہ بالفعل کا (تمییز) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" موصوف (لام) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) مشبہ بالفعل کی (ان) مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مفرد ہو کر مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر متعلق ہے (مبنیة) اسم فاعل مقلد کہے (مبنیة) اسم مفرد منصرف صحیح واحد مؤنث رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مشبہ جملہ ہو کر منصوب لفظاً" حال ہے (النكرة) ذوالحال کا (النكرة) ذوالحال اپنے حال سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"فیرفع منه الابهام"

ترجمہ: اور (تمییز اسم تام سے) ابہام کو دور کرے گی۔

ترکیب ○ (ف) حرف نصیحة (یرفع) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضماز باز رہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل (من) حرف جار (ه) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے (الابهام) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزاء ہے شرط محذوف (اذا نصبت النكرة علی التمییز) یا (اذا كانت النكرة تمییزاً" له) کی شرط محذوف اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"مثل عندی رطل زینتا" و منوان سمننا" و عشرون درهما" ولی ملوہ عسلا"

ترجمہ: جیسے عندی رطل زینتا (میرے پاس ایک رطل ہے زینت کے اعتبار سے) اور منوان سمننا (دو سیر ہیں گھی کے اعتبار سے) اور عشرون درہما (اور دس ہیں درہم کے اعتبار سے) اور لی ملوہ عسلا" (اور لی میرے لئے بھرا ہوا ہے شد کے اعتبار سے)

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (عند) ظرف بنی برکسر مرفوع محلاً" مضاف (ی) ضمیر مجرور متصل کی مجرور مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً" خبر مقدم (رطل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظاً" بمسم میتر (زینتا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظاً" تمییز ہے میتر کی میتر اپنی تمییز سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف علیہ (داو) حرف عطف (منوان) اسم تثنیہ رفع ساتھ الف

ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "بمبم میز (سمنا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف اول (واو) حرف عطف (عشرون) جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ما قبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مکسور کے مرفوع لفظاً "بمبم میز (درھا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر ابتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عطف (لام) حرف جار (ی) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلاً "خبر مقدم (ملو) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "مضاف الیہ منصوب معنی" مضاف بہ ہے (ملو) مصدر اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظاً "بمبم میز (عسلا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظاً" ابتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا ابتداء اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے ابتداء محذوف "مثلاً" کی ابتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### دوسرا احتمال

"مثل عندی رطل زینا" و منوان سمنا" و عشرون درهما" ولی ملوہ عسلا"۔  
ترجمہ: جیسے عندی رطل زینا (میرے پاس ایک رطل ہے زیت کے اعتبار سے) اور منوان سمنا (دو سیر ہیں گھی کے اعتبار سے) اور عشرون درھا (اور دس ہیں درھم کے اعتبار سے) اور لی ملوہ عسلا" (اور میرے لئے بھرا ہوا ہے شد کے اعتبار سے)  
ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (عندی) غائب جمع مذکر سالم مضاف طرف (ی) متکلم کے منصوب تقدیراً "مفعول فیہ ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کا (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر مقدم (رطل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً "بمبم میز (زینا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف علیہ (واو) حرف عطف (منوان) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "بمبم میز (سمنا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظاً معطوف اول (واو) حرف عطف (عشرون) جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ما قبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مکسور کے مرفوع لفظاً "بمبم میز (درھا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے منصوب لفظاً "تیز ہے میز

کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظا معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مبتداء موخر ہے خبر مقدم کا مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لام) حرف جار (ی) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر مرفوع محلا" خبر مقدم (ملق) مصدر متعدی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظا "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا" مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ ہے (ملق) مصدر کا (ملق) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ منصوب معنی "مفعول بہ سے مل کر مرفوع لفظا" بمسم میز (عسلا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظا" مبتداء موخر ہے خبر مقدم کا مبتداء اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلا "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظا" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

### تیسرا احتمال

"مثل عندی رطل زیتا" و منوان سمننا" و عشرون درهما" و لی ملوہ عسلا"

ترجمہ: جیسے عندی رطل زیتا (میرے پاس ایک رطل ہے زیت کے اعتبار سے) اور منوان سمننا (دو سیر ہیں کھی کے اعتبار سے) اور عشرون درہما (اور دس ہیں درہم کے اعتبار سے) اور لی ملوہ عسلا (اور لی ملوہ عسلا) اور میرے لئے بھرا ہوا ہے شد کے اعتبار سے)۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظا "مضاف (عندی) غیر جمع مذکر سالم مضاف طرف (ی) متکلم کے مجرور تقدیرا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب تقدیرا" مفعول فیہ ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کا (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظا "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظا "خبر مقدم (رطل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے مرفوع لفظا" بمسم میز (زیتا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظا" مبتداء موخر ہے خبر مقدم کا مبتداء موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (منوان) اسم تشبیہ رفع ساتھ الف ساکن ماقبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مفتوح کے مرفوع لفظا" بمسم میز (سمننا) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظا" مبتداء ہے (عندی) خبر محذوف کا مبتداء اپنی خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف اول (واو) حرف عاطفہ (عشرون) جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ماقبل مضموم کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ماقبل مکسور کے مرفوع لفظا" بمسم میز (درہما) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرو لفظی کے منصوب لفظا "تیز ہے میز کی میز اپنی تیز سے مل کر مرفوع لفظا" مبتداء ہے (عندی) خبر محذوف کا مبتداء اپنی خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلا "معطوف علیہ (واو) حرف

عاطفہ (لام) حرف جار (ی) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر مرفوع محلاً" خبر مقدم (ملق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "بمبم تمیز (عسلا)" اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے منصوب لفظاً "تمیز ہے تمیز کی تمیز اپنی تمیز سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا مبتداء اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تم السابع من العوامل القیاسیة الاسم التام بعمد اللہ تعالیٰ

## (واما عوامل معنویة)

"واما المعنویة فمنها عددان"

ترجمہ: بہر حال عامل معنوی تو وہ دو ہیں۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ا) حرف شرط و تفصیل فعل شرط محذوف ہے و جواباً (المعنویة) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "صفت ہے (العامل) موصوف محذوف کی (العامل) موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (مضمون ہے معنی شرط کو) (ف) حرف جزائیہ (من) حرف جار (ھا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر منصوب محلاً" حال مقدم (عددان) اسم تشبیہیہ رفع ساتھ الف ساکن ما قبل مفتوح کے نصب اور جر ساتھ یا ساکن ما قبل مفتوح کے مرفوع لفظاً "ذوالحال ہے حال مقدم کا ذوالحال اپنے حال مقدم سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا ہے شرط محذوف کی شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا (مضمون ہے معنی جزاء) کو شرط اپنی جزاء سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔

"والمراد من العامل المعنوی ما یعرف بالقلب و لیس للسان حظ فیہ"

ترجمہ: اور عامل معنوی سے مراد یہ ہے کہ جن کی معرفت قلب سے ہو اور اس میں زبان کا کوئی حصہ شامل نہ ہو۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ال) معنی (الذی) اسم موصول (مراد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مرفوع لفظاً "اس مفعول (هو) ضمیر درو مستقر مرفوع محلاً "نائب فاعل (من) حرف جار (العامل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (المعنوی) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسوا لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (مراد)

اسم مفعول کے (مراد) اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلا "ابتداء (با) اسم موصول (یعرّف) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے بزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "نائب فاعل (ب) حرف جار (القلب) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے فعل کے فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (لیس) فعل ماضی معلوم واحد مذکر غائب مبنی بر فتح مرفوع محلا "فعل از افعال ناقصہ طلب کرتا ہے اسم مرفوع اور خبر منصوب کو (لام) حرف جار (اللسان) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف مستقر منصوب محلا "خبر مقدم ہے (لیس) فعل ناقص کی (حظ) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مؤخر ہے (لیس) فعل ناقص کا (فی) حرف جار (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (لیس) فعل ناقص کے (لیس) فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلا "خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"أحدهما العامل في المبتدأ والخبر و هو الابتداء أي خلو الاسم عن العوامل اللفظية"

ترجمہ: ان دونوں میں سے ایک مبتداء اور خبر دونوں میں عامل ابتداء ہے یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا۔

ترکیب ○ (احد) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (صا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلا "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (ال) موصول (عالم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلا "فاعل (فی) حرف جار (المبتدأ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الخبر) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور محلا "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (عالم) اسم فاعل کے (عالم) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلا "خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلا "مبتداء (الابتداء) معرف باللام مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مبدل منہ (ای) حرف تفسیر (خلو) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسره لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل (عن) حرف جار

(العوالم) معرف باللام جمع مکسر منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (اللفظیۃ) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر طرف لغو متعلق ہے (خلو) مصدر کے (خلو) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی فاعل اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" بدل ہے مبدل منہ کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔

"نحوزید منطلق"

ترجمہ: جیسے زید بولنے والا ہے۔

ترکیب ○ (نحو) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع یا منصوب لفظاً" مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مبتداء (منطلق) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم فاعل (هو) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے (نحو) مضاف کا (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء محذوف "مثلاً" کی (حالت رفعی میں) "مثلاً" مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا

"یا" (نحو) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول مطلق ہے (نحو) فعل محذوف کا (نحو) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

"یا" نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول بہ ہے اعنی فعل محذوف کا (اعنی) فعل مضارع معلوم واحد متکلم معتل یائی مجرد از ضماں بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً" فعل (تا) ضمیر دو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ (نحو) اور اعنی) یہ دونوں مثالیں حالت صی کی ہیں

"وثنایہما العامل فی الفعل المضارع وهو صحۃ وقوع الفعل المضارع موقع الاسم"

ترجمہ: اور دو سرا فعل مضارع میں عامل یہ ہے کہ فعل مضارع کا اسم کی جگہ واقع ہوتا صحیح ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عطفہ (ثانی) اسم منقوص رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ تقدیر کسرہ کے مرفوع



تقدیراً "مضاف (ہا) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع تقدیراً "ابتداء (ال) موصول (عال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل (نی) حرف جار (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (عال) اسم فاعل کے (عال) اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہے موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مرفوع محلاً "معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (هو) ضمیر مرفوع مسفل کی مرفوع محلاً "ابتداء (صححة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (دوقوع) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی "فاعل (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "موصوف مرفوع معنی "فاعل (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "اسم فاعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور لفظاً "صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ (موقع) اسم ظرف مکان منصوب لفظاً "مضاف (الاسم) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے (دوقوع) مصدر مضاف کا (دوقوع) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (صححة) مصدر مضاف کا (صححة) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (هو) ابتداء کی (هو) ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے (ثانیہا) ابتداء کی (ثانیہا) ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"مثل زید یعلم"

ترجمہ: جیسے زید جانتا ہے۔

ترکیب ○ (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع یا منصوب لفظاً "مضاف (زید) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "ابتداء (یعلم) فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً "فعل (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلاً "خبر ہے ابتداء کی ابتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور محلاً "مضاف الیہ ہے (مثل) مضاف کا (مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "خبر ہے ابتداء محذوف "مثالہ" کی (مثل) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب

ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً "مبتداء ہے خبر کا مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ (یہ مثل کی حالت رفعی کی مثال تھی)

(مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول مطلق ہے (مثلت) فعل محذوف کا (مثلت) فعل ماضی معلوم واحد متکلم مبنی بر سکون مرفوع محلاً" فعل ساتھ ضمیر بارز (ت) مرفوع متصل کے مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا

(مثل) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول بہ ہے (اعنی) فعل مقدر کا (اعنی) فعل مضارع معلوم واحد متکلم متکلم مبنی بر مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ تقدیر ضمہ کے نصب ساتھ تقدیر فتح کے جزم ساتھ حذف لام کلمہ کے مرفوع تقدیراً" فعل (انا) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً "فاعل ہے فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ (یہ "مثل" کی حالت سعی کی مثالیں ہیں دونوں "ثلث" اور "اعنی" والی)

"فیعلم مرفوع لصحة وقوعه موقع الاسم"

ترجمہ: پس - علم مرفوع ہے اس بناء پر کہ اسم کی جگہ واقع ہو سکتا ہے۔

ترکیب ○ (ف) حرف فضیلة (یعلم) مراد لفظ مرفوع محلاً "مبتداء (مرفوع) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "اسم مفعول (هو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (لام) حرف جار (صحة) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف (وقوع) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف الیہ مضاف مرفوع معنی "فاعل (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل (موقع) ظرف مکان منصوب لفظاً "مضاف (الاسم) معرف بالاسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً "مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً "مفعول فیہ ہے (وقوع) مصدر مضاف کا (وقوع) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر مجرور لفظاً "مضاف الیہ ہے (صحة) مصدر مضاف کا (صحة) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی "فاعل سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے اسم مفعول کے اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً "خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"اذ یصح ان یقال موقع یعلم عالم"

ترجمہ: اس لئے کہ یہ کہنا اس مثل میں صحیح کہ - علم کی بجائے عالم کہا جائے۔

ترکیب ○ (از) مبنی بر سکون برائے تعلیل (یصح) فعل فعل مضارع معلوم واحد مذکر غائب صحیح مجرور از ضمائر بارزہ رفع ساتھ ضمہ

لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے مرفوع لفظاً" فعل (ان) حرف مصدریہ نائبہ عاملہ در مضارع (یقال) فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب صحیح مجرد از ضماز بارزہ رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ سکون لام کلمہ کے منصوب لفظاً" فعل (موقع) ظرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (بیعلم) مراد لفظ مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ (عالم) مراد لفظ مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے (یقال) فعل مجہول کا (یقال) فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً" فاعل ہے (یصح) فعل کا (یصح) فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معلہ ہوا۔

"فاعلمہ معنوی"

ترجمہ: لئذا مضارع کا عامل معنوی ہوگا۔

ترکیب ○ (ف) حرف غصیلیہ (عال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرفوع لفظاً" مبتداء (معنوی) اسم مفرد منصرف جاری مجری صحیح واحد مذکر رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم منصوب (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل ہے اسم منصوب کا اسم منصوب اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

"و عند اکثر الکوفیین ان عامل الفعل المضارع تجردہ عن العامل الناصب والحازم"

ترجمہ: اور اکثر کوفیوں کے نزدیک فعل مضارع کا عامل اس کا خالی ہونا ہے عامل ناصب اور جازم سے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (عند) ظرف مکان منصوب لفظاً" مضاف (اکثر) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ مضاف (الکوفیین) معرف باللام جمع مذکر سالم رفع ساتھ واو ساکن ما قبل مضموم کے نصب اور جزم ساتھ یا ساکن ما قبل مکسور کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (عند) مضاف کا (عند) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" مفعول فیہ ہے (ثابت) اسم فاعل محذوف کا (ثابت) اسم مفرد منصرف صحیح مرفوع لفظاً" اسم فاعل (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" فاعل ہے اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر مقدم (ان) حرف از حروف شبہ بالفعل طلب کرتا ہے اسم منصوب اور خبر مرفوع کو (عال) اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" مضاف (الفعل) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (المضارع) معرف باللام اسم مفرد منصرف صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے مضاف کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منصوب لفظاً" اسم سے (ان) شبہ بالفعل کا (تجدد) مصدر لازمی رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جزم ساتھ کسرہ لفظی کے

مرفوع لفظاً" مضاف (ہ) ضمیر مجرور متصل کی مجرور محلاً" مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل (عن) حرف جار (العامل) معرف باللام اسم مفرد منفرد صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" موصوف (النصب) معرف باللام اسم مفرد منفرد صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" معطوف علیہ (واو) حرف عاطفہ (الجازم) معرف باللام اسم مفرد منفرد صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع مجرور لفظاً" معطوف ہے معطوف علیہ کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور لفظاً" صفت ہے موصوف کی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور لفظاً" مجرور ہے جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہے (تجرؤ) مصدر مضاف کے (تجرؤ) مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع معنی" فاعل اور متعلق سے مل کر مرفوع لفظاً" خبر ہے (ان) شبہ بالفعل (ان) شبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتلاویل مفرد ہو کر مرفوع محلاً" مبتداء مؤخر ہے خبر مقدم کا مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے (ہذا عند البصریین) معطوف علیہ محذوف کا معطوف علیہ محذوف اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہوا

وہو مختار ابن مالک

ترجمہ: اور یہ ابن مالک کا پسندیدہ قول ہے۔

ترکیب ○ (واو) حرف عاطفہ (ہو) ضمیر مرفوع منفصل کی مرفوع محلاً" مبتداء (مخار) اسم مفرد منفرد صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مرفوع لفظاً" اسم مفعول مضاف (ہو) ضمیر درو مستتر مرفوع محلاً" نائب فاعل (ابن) اسم مفرد منفرد صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف (مالک) اسم مفرد منفرد صحیح رفع ساتھ ضمہ لفظی کے نصب ساتھ فتح لفظی کے جر ساتھ کسرہ لفظی کے مجرور لفظاً" مضاف الیہ ہے (ابن) مضاف کا (ابن) مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور لفظاً مضاف الیہ ہے (مخار) اسم مفعول مضاف کا (مخار) اسم مفعول مضاف اپنے نائب فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع لفظاً" خبر ہے مبتداء کی مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

ولقد فرغ العبد المحتاج الی رحمة رب الرحمن المسمى بحفظ الرحمن من نقل هذا التحریر  
من سواد العدم الی بیاض الوجود ضحو السبت من شهر رجب المرجب فی الیوم العشر ۱۳۱۹  
بحری والحمد لله علی التوفیق ومنه الوصول الی حلاوة التحقیق والهدایة الی سواء الطریق و  
الصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد وبارک وسلم  
سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العلمین ○

تمت بالخیر

